

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**Appeal No. 497/2014**

Date of Institution ... 08.04.2014

Date of Decision ... 16.04.2018

Imran Khan S/o Mosam Khan, R/o Muhslim Bagh, Sirai Naurang, Lakki Marwat,  
Ex.C. no. 6577; P.S, Sirai Naurang, Lakki Marwat.

... (Appellant)

VERSUS

1. Additional I.G.P/Commandant, Frontier Reserve Police, Khyber  
Pakhtunkhwa Peshawar and 2 others. ... (Respondents)

MR. ARBAB SAIFUL KAMAL,  
Advocate

--- For appellant.

MR. ZIAULLAH,  
Deputy District Attorney

--- For respondents

MR. AHMAD HASSAN,  
MR. MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI

--- MEMBER(Executive)

--- MEMBER(Judicial)

**JUDGMENT****AHMAD HASSAN, MEMBER.-**

This judgment shall dispose of the instant service appeal as well as connected service appeal no. 495/2014 titled Abdul Qayyum, no. 496/2014 titled Rafi Ullah and no. 549/2014 titled Habibullah as similar question of law and facts are involved therein.

2. Arguments of the learned counsel for the parties heard and record perused.

**FACTS**

3. The brief facts are that the appellant while posted at police post Sur Pul, some miscreants attacked the post on 04.11.2013 at 23:15hrs and started indiscriminate firing. As a result of firing constable Sher Nawaz got injured but subsequently succumbed to injuries and died. That disciplinary proceedings were initiated against

him for showing "cowardice" and upon conclusion major penalty of dismissal from service was imposed on him vide impugned order dated 06.01.2014. He filed departmental appeal 15.01.2014 which was rejected on 10.02.2014, hence the instant service appeal.

### ARGUMENTS

4. Learned counsel for the appellant argued that while posted at police post Sur Pul, some miscreants attacked the post on 04.11.2013 at 23:15hrs and started indiscriminate firing. As a result of this firing Sher Nawaz got injured but succumbed to injuries and died. That disciplinary proceedings were initiated against him for showing "cowardice" and upon conclusion major penalty of dismissal from service was imposed on him vide impugned order dated 06.01.2014. He further argued that enquiry proceedings were not conducted in the mode and manner prescribed in the Police Rules 1975. Though statements of some officials were recorded during the enquiry proceedings but they were not witness of the incident. The appellant was the only eye witness of the incident. In the absence of any solid evidence regarding cowardice showed by him, the findings of the enquiry officer carry no weight. He was injured and taken to hospital but the statement of doctor was not recorded by the enquiry officer. Copy of enquiry was not annexed with the final show cause notice served on the appellant, which is a serious deficiency and is a sufficient ground to vitiate the entire enquiry proceedings. One Naqibullah involved in this case was awarded major penalty of compulsory retirement, while other accused Ismail was reinstated in service while Shuhada package was granted to constable Sher Nawaz. Reliance was placed on 2000 SCMR 669 and 2002 SCMR 433.

5. On the other hand learned argued that the appellant showed cowardice, fled away from the police post and took shelter in the house of Nisar Khan. The miscreants took away rifles of both the officials as such charge of showing cowardice during the encounter with the terrorists stood proved. Enquiry proceedings were conducted in accordance with the procedure laid down in the Police Rules 1975.

### CONCLUSION

6. Scrutiny of enquiry report revealed that the enquiry officer recorded statement of Murad Ali Khan, Inspector Investigation, Ghulam Muhammad, SHO and Mira Khan, ASI and Gul Muhammad, Reader. One thing is clear beyond doubt that in this case the appellant was the only eye witness of the incident, so in the absence of any other eye witness what would be the evidentiary value of the statements of Police Officials recorded by the enquiry officer?. Moreover, no documentary evidence is available on record to substantiate whether these statements were recorded in front of the appellant and he was afforded an opportunity of cross examination. Though show cause notice was served on the appellant but the copy of enquiry report was not supplied to him which is a serious irregularity and is sufficient to vitiate the entire enquiry proceedings in the light of numerous judgments of the superior courts. Similarly the respondents have charged the appellant that after occurrence of incident he took shelter in the house of Nisar Khan but statement of Nisar Khan was not recorded. As confirmed by the respondents that the appellant was injured and taken to hospital but statements of doctors was not recorded are creates doubts about the fairness of the enquiry proceedings. So far as imposition of major penalty of compulsory retirement and exoneration of Naqibullah and Muhammad Ismail is a sufficient to proof of the

malafide and discriminatory attitude of the respondents. As such Article-25 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 was violated.

7. As a sequel to the above discussion, the appeal is accepted. The impugned order dated 08.02.2014 is set aside. The department is at liberty to conduct de-novo enquiry within a period of 90 days after receipt of this judgment. The issue of back benefits shall be subject to the final outcome of the de-novo enquiry. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.



(AHMAD HASSAN)  
MEMBER



(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)  
MEMBER

ANNOUNCED  
16.04.2018

28.12.2017

Appellant in person and Addl: AG alongwith Mr. Safeerullah, S.I and Javed Iqbal, Inspector for respondents present. Arguments could not be heard due to incomplete bench. Adjourned. To come up for arguments on 12.02.2018 before D.B.

  
Member

12.02.2018

Clerk of the counsel for appellant present. Mr. Muhammad Jan, DDA for the respondent present. Counsel for the appellant is not in attendance due to general strike of the bar. To come up for arguments on 16.04.2018 before D.B.

  
Member

  
Chairman


Order

16.04.2018

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, DDA alongwith Mr. Javed Iqbal, Inspector and Mr. Safeerullah, S.I for respondents present. Arguments heard and record perused.

Vide detailed judgment of today of this Tribunal placed on file, the appeal is accepted. Parties are left to bear their own cost. File be consigned to the record room.

Announced:  
16.04.2018

  
(AHMAD HASSAN)  
Member

  
(MUHAMAMD AMIN KHAN KUNDI)  
Member

17. 04.07.2017 Counsel for the appellant and Mr. Zia Ullah, Deputy District Attorney alongwith Mr. Safeer Ullah, H.C for the respondent present. Counsel for the appellant requested for adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 14.09.2017 before D.B.

(Gul Zeb Khan)  
Member

(Muhammad Hamid Mughal)  
Member

14.09.2017

Appellant present. Learned Additional Advocate General alongwith Mr. Zafar Ullah, ASI for the respondents present. Appellant seeks adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 20.10.2017 before D.B.

Member  
(Executive)

Member  
(Judicial)

20.10.2017

Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Jan, DDA alongwith Mr. Muhammad Iqbal, Inspector and Mr., Safeer ullah, H.C for respondents present. Counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 28.12.2017 before D.B.

Member  
(Executive)

Member  
(Judicial)

26.09.2016

None present for appellant and Addl. AG for the respondents present. Notice be issued to appellant and his counsel. To come up for arguments on 31.1.2017 before the D.B.

Noted  
uzms


  
Member

  
Chairman

31.01.2017

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, GP alongwith Mr. Saferullah, H.C for respondents present. Learned GP submitted before the court that since the enquiry report is not available on file, hence adjournment be granted to requisition the same. Respondents are directed to produce the entire record on the next date. To come up for arguments on 07.04.2017 before D.B.

  
(ASIFAQUE TAJ)  
MEMBER

  
(MUHAMMAD AAMIR NAZIR)  
MEMBER

07.04.2017

Counsel for the appellant and Addl. AG alongwith Mr. Ihsanullah, H.C for the respondents present. Enquiry report submitted. Learned Addl. AG requested for adjournment to submit enquiry report in identical appeal of Mr. Habibullah. Adjourned for final hearing to 4.7.2017 before the D.B.

  
Member

  
Chairman

27.1.2016

Counsel for the appellant and Mr. Younas Khan, ASI alongwith Mr. Ziaullah, GP for respondents present. Rejoinder submitted. To come up for arguments on 25.4.2016 before D.B.




Member



Chairman

25.04.2016

Counsel for the appellant and Ayub Khan, SI legal Lukki Marwat alongwith Mr. Adeel But, GP for official respondents present. The learned Judicial Member is on official tour to D.I. Khan, therefore, case is adjourned to 27.7.2016 before D.B.



Chairman

27.07.2016

Junior to counsel(Arbab Saif-ul-Kamal, Advocate) and Mr. Farman Ullah, Inspector alongwith Mr. Ziaullah, GP for respondents present. Junior to counsel for the appellant seeks adjournment as learned senior counsel is indisposed. To come up for arguments on 26.09.2016



Member



Member



4

20.03.2015

Appellant with counsel and Mr. Asmatullah, Head Constable for respondents alongwith Muhammad Jan, G.P present. Requested for adjournment. Adjourned for written reply to 30.6.2015.

  
MEMBER

30.06.2015

Counsel for the appellant and Addl: A.G for respondents present. Written reply not submitted. Requested for adjournment. Last opportunity granted. To come up for written reply/comments on 12.10.2015 before S.B.

  
Chairman

12.10.2015

Appellant with counsel and Mr. Younas Khan, ASI alongwith Addl: A.G for respondents present. Written reply not submitted despite last opportunity. Requested for further adjournment. Last opportunity is extended subject to payment of cost of Rs. 200/- which shall be borne by the respondents from their own pockets. To come up for written reply/comments and cost on 21.12.2015 before S.B.

  
Chairman

21.12.2015

Counsel for the appellant and Mr. Younas Khan, ASI (legal) alongwith Addl: A.G for respondents present. Written reply submitted. Cost of Rs. 200/- also paid and receipt thereof obtained from the learned counsel for the appellant. The appeal is assigned to D.B for rejoinder and final hearing for 27.1.2016.

  
Chairman

Appeal No. 497/2014  
Mr. Imran Khan.


3. 02.06.2014


Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard and case file perused. Counsel for the appellant contended that the appellant has not been treated in accordance with law/rules. Against the original order dated 06.01.2014, he filed departmental appeal on 15.01.2014, which has been rejected on 10.02.2014, hence the present appeal on 08.04.2014. He further contended that the impugned order dated 10.02.2014, has been issued in violation of Rule-5 of the Civil Servant (Appeal) Rules 1986. Points raised at the Bar need consideration. The appeal is admitted to regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit the security amount and process fee within 10 days. Thereafter, Notices be issued to the respondents. To come up for written reply/comments on 19.08.2014.

Appellant Deposited  
Security & Process Fee  
Rs. 180/- Bank  
Receipt is Attached with File.

  
Member

4. 02.06.2014

This case be put before the Final Bench  for further proceedings.

  
Chairman

19.8.2014

The Hon'ble Bench is on tour to Abbottabad, therefore, case adjourned to 23.12.14



Reader

23.12.2014

Ms. Uzma Bibi, Advocate on behalf of counsel for the appellant and Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG for the respondents present. The Tribunal is incomplete. To come up for written reply/comments on 20.03.2015.





Reader

Form- A  
FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 497/2014

S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	08/04/2014	<p>The appeal of Mr. Imran Khan presented today by Mr. Saadullah Khan Marwat Advocate may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for preliminary hearing.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2	15-4-2014	<p>This case is entrusted to Primary Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>2-6-2014</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

**BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

S.A. No. 497/2014

Imran Khan

Versus

Commandant & others


**I N D E X**

S.No	Documents	Annex	P. No.
1.	Memo of Appeal		1-3
2.	FIR, 04.11.2013	"A"	4-5
3.	Charge Sheet, 11.11.2013	"B"	6-7
4.	Reply of Charge Sheet, 11.11.2013	"C"	8-9
5.	Final Show Cause Notice,	"D"	10
6.	Reply to Notice,	"E"	11
7.	Dismissal Order, 06.01.2014	"F"	12-13
8.	Representation, 15.01.2014	"G"	14-16
9.	Rejection Order, 10.02.2014	"H"	17

Dated. 8.04.2014

Through

Appellant



Saad Ullah Khan Marwat  
Advocate.

21-A Nasir Mension,  
Shoba Bazar, Peshawar.

Ph: 0300-5872676

**BEFORE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

S.A No. 497 /2014

Imran Khan S/o Mosam Khan, R/o Muhsim  
Bagh, Sirai Naurang, Lakki Marwat,  
Ex.C. No. 6577, P.S, Sirai Naurang,  
Lakki Marwat . . . . . Appellant

Versus

1. Additional I.G.P / Commandant, Frontier Reserve Police, KP, Peshawar.
2. Provincial Police Officer, KP, Peshawar
3. Superintendent of Police, FRP, Bannu . . . . . Respondents

**P. W. F. Prov.**  
**Case No. 518**  
**08/4/2014**

⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔

**APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT,**  
**AGAINST ORDER NO. 1154-55/EC**  
**DATED 10.02.2014 OF R.NO.1 WHEREBY**  
**DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST OB NO. 13,**  
**DATED 06.01.2014 DISMISSING APPELLANT**  
**FROM SERVICE, WAS REJECTED FOR NO LEGAL**  
**REASON.**

⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔

**Respectfully Sheweth;**

1. That appellant was appointed as Constable on 30.05.2005 and since then he was performing his official duties to the best of the ability and to the entire satisfaction of the superiors.

**Handwritten signature**  
**8/4/14**

That finally appellant was posted at Police Post, Sur Pul, situated in the suburb of Sirai Naurang. On 04.11.2013, 10/12 miscreants attacked the said post at 23:15 hours and indiscriminate / fierce firing took place between the miscreants and police officials. The miscreants decamp away from the spot by taking advantage of the night and bushes. After combat and checking the place Sher Nawaz, Constable was lying injured in serious condition. He was rushed to hospital for

treatment but there he succumbed to the injuries. (Copy of F.I.R as annex "A")

3. That on 11.11.2013, appellant was served with Charge Sheet and statement of allegation without assigning any specific reason to him. The charge sheet was replied on 11.11.2013. (Copies as annex "B" & "C")
4. That perhaps inquiry in to the matter was initiated by the authority but as is evident from the same, neither any statement of any witness (s) was recorded in presence of appellant nor he was afforded opportunity of cross examination what to speak of providing him opportunity of defence and personal hearing. All such requirements are mandatory in the law.
5. That thereafter, appellant was served with final show cause notice which was replied by denying the allegations. (Copies as annex "D" & "E")
6. That on 06.01.2014, appellant was dismissed from service. (Copy as annex "F")
7. That on 15.01.2014, appellant submitted representation before R. No. 2 which was rejected on 10.02.2014. Copy of the order was dispatched to appellant through postal service which was received by him on 10.04.2014. (Copies as annex "G" & "H")

Hence this appeal, inter alia, on the following grounds:-

**GROUND S:**

- a. That it was an admitted fact and also confirmed by the Inquiry Officer that on the eventful night, appellant was on duty at the post.
- b. That legal procedure was not adhered to by the respondents as no regular inquiry was ever conducted nor appellant was afforded opportunity of personal hearing, cross examination, being mandatory.
- c. That the enactment under which appellant was dealt with, was never specified in the charge sheet. Formal inquiry was made basis for the proceedings which has no legal value in the eyes of law.
- d. That neither any coverdice was ever shown nor appellant was negligent in performance of his official duties. In combat with 10/12

miscreants, loaded with sophisticated weapons, 2 police officials cannot prevent them from terrorist activities.

- e. That from the aforesaid stated legal point when appellant was neither associated with inquiry nor the same was conducted as per the mandate of law nor any statement of any one was recorded nor he was given opportunity of cross examination and self defence, so the impugned orders are then based on malafide and are ab-initio void.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of appeal, order dated 10.02.2014 of R.No.1 or order dated 06.01.2014 of R.No.3 be set aside and appellant be reinstated in service with all back benefits, with such other relief as may be deemed proper and just in circumstances of the case.

عزیز خان

Appellant

Through

3 Saad Ullah Khan

Saad Ullah Khan Marwat

Arbab Saiful Kamal

Arbab Saiful Kamal

Rubina Naz

Miss Rubina Naz  
Advocates.

Dated. 8.04.2014





بھی موجود ہے زخمی کانسٹیبل شہر لوئر 6412 کو علاج کے خاطر لہر ہسپتال ہارٹی  
میں سسرل ہسپتال ٹورنگ بھی رہا تھا ہے اور لہر ہسپتال اور کاروبار کے لوٹنے دوران  
گنتی شدہ و قہریم کا اعلیٰ ملنے پر خودی کاٹے وقوع کے طرف لہر ہسپتال ہارٹی کاروبار  
روایت سے لہر ہسپتال ہارٹی کو مزاحمت و اثر میں مطلع کے وقوع سے بھی کاروبار  
لغت اللہ علیہ السلام اور ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی کے ساتھ لہر ہسپتال ہارٹی  
کے زیر اثر ہسپتال ہارٹی اور ہسپتال ہارٹی کی جگہ سے لہر ہسپتال ہارٹی میں  
بم فیزی ڈیویس کے لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
کلہ ہر کو رہ کھنڈل ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
کے ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
کے خاطر لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
زیر اثر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی  
میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی میں لہر ہسپتال ہارٹی

M. H. P. S. N. I.  
05-11-13

استغفر اللہ  
۴

B 6  
11-11-13  
CHARGE SHEET.


*WHEREAS*, I am satisfied that a Formal Enquiry as contemplated in the KPK, Police Rules 1975 is necessary and expedient.

*AND WHEREAS*, I am of the view that the allegations if established would call for a major penalty as defined in Rules-1 (b) of the aforesaid Rule.

*NOW, THEREFORE*, as required in 6-1 (a) of the aforesaid Rule, I, *Bashar Khan, District Police Officer, Lakki Marwat* as Competent Authority hereby charge you Const: Imran Khan No. 6577/FRP PP Surkh Pull the allegations are attached with this Charge Sheet.

AND I direct you further under rules 6-1 (b) of the aforesaid Rules to put in written defence within 07 days of the receipt of this Charge Sheet as to whether major or minor punishment as defined in Rules 4-1 (a) - (b) should no be imposed upon you also state at the same time whether you desire to be heard in person.


In case, your reply is not received within stipulated period without sufficient reason, it would be presumed that you have nothing to say in your defence and the undersigned would be at liberty to take ex-parte action straight away against you


  
(Bashar Khan)  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

No. 8051-S2 / SRC, Dated Lakki Marwat, the 11/11 2013. *ok*

Copy, to :-

1. Mr. Syed-Liaqat Shah DSP Naurang, Enquiry Officer for initiating enquiry proceeding against the defaulter police officer/ official under the Rules.
2. Const: Imran Khan No. 6577/FRP Surkh Pull is directed to appear before the Enquiry Officer/ Committee on due date, time and place fixed by the Enquiry Officer for the purpose of enquiry proceedings and also to put in a written statement/ defence with in a period of 07 days.

  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.  
*ok*





7

SUMMARY OF ALLEGATION

On the night between 4/5-11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and opened indiscriminate firing upon Constables Sher Nawaz No. 6412 Constable Imran Khan No. 6577, as a result thereof, Constable Sher Nawaz sustained severe injuries and later expired in the Hospital, while Constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The accused/ terrorists also took away Govt: Rifles No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK-Rifle No. 44815 alongwith bandolier containing three (3) magazines loaded 90 rounds of the same bore from the possession of the above noted officials and case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/353/404 PPC/7-ATA PS Naurang was registered.

1. That you being member of Police force of the said Police Post Surkh Pull in spite of repeated directions from the undersigned regarding vigilance and alert in the discharge of duties in the present prevailing Law & Order situation and wave of terrorism, failed to combat the above noted situation and showed great cowardice.
2. That being negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police official who were on Sentary duty, which resulted in the death of constable Sher Nawaz No. 6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in the performance of your duty as Police Constable speaks of inefficiency and suggest your unbecoming of good Police Officer and all this amount to gross misconduct on your part and liable to be punished under the Rules-1975.

  
District Police Officer,  
Jalangi Marwat.



c 8  
Sir,

IN RESPONSE TO THE CHARGE SHEET ISSUED  
VIDE NO. 8081-52 DATED 11-11-2013.

IT IS SUBMITTED AS BELOW:

1. That I joined the police department in the year 2005 and remained posted at various posts. I performed my duties with great devotion and zeal to the entire satisfaction of my seniors.
2. That I was posted at Police Post "Surakh Pull" in the month of October 2013 and performing my duties till now to the best of my abilities.
3. That at the night of 04-11-2013, I was on sentry duty along with "Late" constable Sher Nawaz, when at about 11.00 pm a Dumper vehicle appeared on the spot, and I came out from "Sentry Posh" so as to check the vehicle leaving my rifle with my colleague Sentry "Late" Sher Nawaz constable who was also on duty with me.
4. That as soon as, I stepped up to check the vehicle, suddenly at the spur of moment 10/12 terrorists attacked over the post packet with indiscriminated firing. The attack was so quick and organized that I could not enter the "Sentry Posh" but turned however at that movement, I became senseless which was quite natural. I had no power to regain my senses as helpless to save myself. When I opened my eyes, I noticed that I was lying there in Civil hospital Serai Naurang. So what happened next I am totally unaware and having no further knowledge.
5. That I have neither failed to combat the terrorist nor have over looked the directives of the seniors

9

er. was negligent of the situation but the terrorist attack was so organized and harsh that the police party was left with no chance/even to have our position.

6. That terrorism has become an open challenge and spreading like a wild fire though out the country, causing human and property losses at the high level but ways could not be sought out to keep pause upon this front.
7. That the police post- packet established at "Surkh Pull" is away from the High Way and situated in an area which is covered with Sugar cane and other crops and as such the terrorists could not be seen at night time unless they reach the target and that is why they succeeded to achieve their goals and escaped.
8. That a criminal case to this effect has also been registered at PS S. Naurang where in it is coming to the surface of investigation, that it was a terrorist attack like other terrorist activities which cannot be controlled being organized and planned crime with high skill with a view to prevail upon the Govt. Keeping in view the prevailing situation of terrorist activities and day to day causalities,

It is requested that I may please be exonerated from the charges and the charge sheet may be filed please.

I wish to appear before your good self for personal hearing.

Yours Faithfully,

*FC*  
FC. Imran Khan No. 6577NB  
Surkh Pull.

*Attested by*

D 10

FINAL SHOW CAUSE NOTICE


On the night between 4/5 -11-2013 the militants attacked on police post Surakh pull and made firing upon constables on duty as a result constable Sher Nawaz No. 6412 was injured and expired in the hospital while other constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The terrorists also snatched government rifle No. 26099229 and rifle No. 44815 with fitted magazine and rounds from the possession of both the constables. A case FIR No.592 dated 05/11/13 u/s 302/324/353/404 PPC/7ATA has been registered at PS Naurang.


You constable Imran Khan No.6577 were charged for negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorist as sentry who ambushed the police officials who were on duty, which resulted in the death of the constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the police department in spite of repeated instructions from the senior officers regarding vigilance and alertness in the discharge of duties in the present prevailing wave of terrorism. Furthermore, you showed great cowardice and inefficiency and failed to combat the situation.

The DSP Syed Liaqat Shah Sarai-e-Naurang was appointed as inquiry officer and he conducted the inquiry and proved the charges. His findings received in this office was sent to the commandant FRP Headquarter Peshawar for guidance and the same received back in the office for awarding major punishment on the basis of the findings of the inquiry officer.

Therefore, I, Zarwali Khan SP FRP Range Bannu direct you through this final show cause notice to put in written statement/defense within seven days of receipt of this notice as to why the major punishment including dismissal should not be imposed upon you and also state at the same time whether you want to be heard in person. If your reply is not received within stipulated period it shall be presumed that you have no defense to offer and ex-parte action will be taken against you.

Attested  
by

  
(Zarwali Khan)  
Superintendent of Police  
FRP Range Bannu



جناب عالی!

بحوالہ شمولہ فائل شوکا ز معروض ہوں کہ میرا پہلا بیان منقص ہے، جملہ الزامات میرے خلاف بے بنیاد اور غلط بھی پڑتی ہیں، میں نے اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ اچانک رونما ہوا، جیسا کہ دیگر دہشت گردی کے واقعات پہلے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اگر یہ دہشت گردی کا واقعہ نہ ہوتا، تو دوران تفتیش دہشت گردی کے دفعہ کا اطلاق نہ کیا جاتا، مزید انکو آڑی آفر نے بلا کسی شہادت کے مجھے مورد الزام ٹھہرایا ہے، نہ تو تفتیشی آفر نہ سربراہ آفر کو میرے خلاف کوئی شہادت دوران تفتیش ملی ہے، جس سے میری بزدلی یا غفلت ثابت ہو سکے۔

محض قیاس پر مجھ پر الزام غفلت اور بزدلی کا لگایا ہے، انکو آڑی آفر نے بھی مجھے بلا شہادت غفلت اور بزدلی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ جن آفران کے بیانات اُس نے قلم بند کئے ہیں، اُن کے بیانات بھی محض خانہ سری ہے، کیونکہ بلا شہادت وہ کیونکر مجھے مورد الزام ٹھہراتا ہے جب وہ دوران وقوعہ موجود ہی نہیں تھے، دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں، یا ہوتے رہتے ہیں، وہ ایک منظم منصوبہ بندی پر ہوتے ہیں اور اچانک رونما ہو کر نقصان رسانی کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ بھی دہشت گردی کا وقوعہ ہے جس میں میرا کوئی قصور یا غفلت بزدلی نہیں ہے۔

لہذا مجھے الزام سے بری التزمہ قرار دیا جاوے اور شوکا ز نوٹس داخل دفتر فرمائی جاوے۔

العارض

Atul  
by

عمران خان صاحب

FC عمران خان 6577/spl

ناکہ بندی شوپل۔

F  
12  
6-1-14

ORDER

On the night between 4/5/ 11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and started indiscriminate firing upon on duty Constables Sher Nawaz No.6412 and Constable Imran Khan 6577, as a result of which, FC Sher Nawaz was seriously injured while FC Imran Khan became senseless. FC Sher Nawaz No.6412 succumbed to his injuries in the hospital. The militants succeeded also in snatching away Govt Rifle No.26099229 along with fitted magazine containing 30 rounds and K.K Rifle No.44815 along with bandolier consisting of 03 magazines of 90 rounds from the possession of both the aforesaid mentioned constables. SI/SHO Police Station Naurang reached the spot and register case FIR No.592 dated 05-11-2013 u/s 302/324/393/404 PPC read with 7 ATA, police station Naruang District Lakki Marwat against the unknown terrorists. The District Police Officer Lakki Marwat suspended SI/PC Naqib Ullah In-charge Police Post Surkh Pull, Constable Imran Khan No.6577, Ismail No.6508, Abdul Qayyum No.6532 and Constable Rafi Ullah No.6407 for badly failing to combat with the accused and showed great cowardice vide order OB No.552 dated 08/11/2013.

The DPO as competent authority Lakki Marwat charged Constable Imran No.6577 for the following misconduct.

1. That you being member of Police Force of the said police post Surkh pull in spite of repeated directions from the undersigned regarding vigilance and alert in the discharge of duties in the present prevailing law and order situation and wave of terrorism.
2. That being negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police officials who were on sentary duty, which resulted in the death of Constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in performance of your duty as police Constable speaks of inefficacy and suggest your unbecoming of good police officer and all this amount to gross misconduct on his part and liable to be punished under the Police Rules 1975.

Mr. Syed Liaqat Ali-Shah DSP Serai Naruang was appointed as enquiry officer for initiating enquiry proceedings. He conducted the formal enquiry properly and submitted his findings on 28-11-2013 with the conclusion that all the charges /



allegations framed on Constable Imran Khan No.6577 stands proved. The same findings along with enquiry papers was received in this office to proceed further under the rules. The same enquiry file was forwarded to Addl: IGP/Commandant FRP K.P.K Peshawar for information and the same departmental enquiry of Constable Imran Khan No.6577 received back vide this office diary No.1826 dated 23-12-2013 for awarding Major punishment on the basis of findings of Enquiry officer.

Final Show Cause Notice of Major Punishment including dismissal was given to Constable Imran Khan No.6577 on 27/12/2013 and similarly the findings of the enquiry officer was also handed over to him. He was asked in the Show Cause Notice to put in his written statement/defense within 07 days of the receipt of Final Show Cause Notice as to why Major Punishment including dismissal could not be imposed upon him and also stating at the same time whether wants to be heard in person or otherwise.

He has replied to the Final Show Cause Notice within stipulated period which was studied and perused at length. He was also personally heard but his explanation to the Final Show Cause Notice and personal hearing was not found convincing and satisfactory. He was actually and physically on duty with the Shaheed Constable Sher Nawaz No.6412 but due to cowardice became senseless and did not make any response.

Constable Imran Khan No.6577 was recruited/enlisted as constable on 30-05-2005. Therefore, I Zar Wali Khan SP/FRP Bannu as competent authority impose upon him the punishment of Dismissal from service with immediate effect defined in rule 4-B (ii) KPK Police Rules 1975 on the basis of proven charges:

OB No. 13

Dated: 06-01-2014

*Attested by*

*Zar Wali Khan*  
Superintendent of Police  
FRP Bannu

## بھنور جناب کمانڈنٹ صاحب FRP خیبر پختونخواہ پشاور

عنوان:- اپیل بر خلاف حکم بر خاستگی من مسائل عمران خان 6577/spl بحارہ ایس بی FRP بنوں بحوالہ

آرڈرنگ نمبر 13 مورخہ: 06-01-2014

جناب عالی!

یہ کہ من مسائل ذیل عرض کرتا ہوں۔

- 1- یہ کہ من مسائل سال 2005ء میں محکمہ پولیس FRP میں بحسبیت کنسٹیبل بھرتی ہوا، اور بعد مکمل کرنے ٹریننگ مسائل نے واپسی پر ڈیوٹی کرنے کی رپورٹ کی، مسائل نے مختلف اوقات کار میں مختلف مقامات پر ڈیوٹی کی، اور مسائل نے اپنی ڈیوٹی اس خوش اسلوبی سے سرانجام دیا ہے کہ کسی بھی آفسریا پرائیوٹ لوگوں کو مسائل کی ڈیوٹی میں کوئی شکایت نہیں رہی جس کی ثبوت میں مسائل کا ریکارڈ موجود ہے
- 2- یہ کہ مقدمہ 592 مورخہ: 05-11-2013 جرم 302/324/353/404/7ATA تھانہ نورنگ کی وقوعہ سے تقریباً 2 ماہ قبل متعین ہوا تھا، اور یہ پولیس چوکی ایک ایسا علاقہ میں قائم کی گئی ہے جن کا تھانہ متعلقہ سے رابطہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور اس پولیس چوکی کی ناگفتہ بہ حالات کے بارے میں وقوعہ کے فوراً بعد نذیر بادشاہ انکوآری آفسر کرک نے بحوالہ مد 8 مورخہ: 07-12-2013 روزنامہ FRP نورنگ میں مفصل ذکر کیا ہے، جس کی فوٹو کاپی ہمراہ لف ہے جو کہ من مسائل اور دیگر پولیس اہلکاران محضہ پولیس چوکی حذا کی بے گناہی اور جرات کا مظاہرہ کرنے کیلئے کافی ہے لیکن جتنے بھی انکوآری آفسران نے وقوعہ حذا کے بارے میں انکوآریاں کی ہے انہوں نے حقیقت حال کو چھپایا ہے، اگر ان انکوآریوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پولیس اہلکاران کی کوئی بزدلی یا ڈرپوکی سامنے نہیں آتی۔
- 3- خالیہ وقت میں تخریب کار ماڈرن اسلحہ و آلات سے لیس ہیں، اور پچھلے 5، 6 سال سے تخریب کاری سارے ملک میں جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور آئے دن سینکڑوں جانی و مالی نقصانات ہو چکے ہیں کیونکہ یہ کاروائی ایک منظم تنظیم کی طرف سے ہو رہی ہے اسلئے حکومت کا اس پر توجہ دینا بھی مشکل ہے، اس قسم کے واقعات جس میں پولیس کنسٹیبلان کو نارنگت کیا جا کر قتل کئے گئے ہیں اور اسلحہ بھی لے گئے ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں، 1: مقدمہ نمبر 96 جرم 302/404/34/7ATA مورخہ: 22/04/2012 چوکی

نیوسبزی منڈی تھانہ منڈان بنوں۔ 2: مقدمہ نمبر 523/2012م 302/404/7ATA/148/149 مورخہ: 08/10/2012 چوکی

نیوسبزی منڈی تھانہ منڈان بنوں، 3: مقدمہ نمبر 407/2012

302/324/395/404/353/7ATA/34 مورخہ: 22/07/2012 مین گیٹ نمبر 1 DHQ.No.1 ہسپتال بنوں تھانہ

صدر، جس کا FIR ہمراہ لف ہے لیکن بوجہ تخریب کاری کسی کو سزا نہیں دی گئی ہے،

4- ایک طرف FRP4/5 کنسٹیبلان کو مورد الزام بابت بزدلی ٹھہرائے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف 10/12 تخریب کاری کی کارروائی

اور وہ بھی شب درمیانی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کیا 3/4 کنسٹیبلان ہمہ وقت چوکی میں چوکس رہینگے یا ان کی صحت کیلئے کچھ نیند کی بھی

ضرورت ہوتی ہے اور شب وقوع کے وقت 3 کنسٹیبلان کے غیر محفوظ چوکی کے اندر سوائے ہوئے تھے جبکہ ہم 2 کنسٹیبلان ڈیوٹی پر

مامور تھے، اور ایسے میں اچانک حملے کی صورت میں اوسان خطا ہونے میں کوئی گنجائش نہ تھی لیکن انکو آفری اسپر اور FRP/SP نے

ان حقائق کو تسلیم نہ کیا بلکہ قصداً روگردانی کی۔

5- انکو آفری اسپر کی انکو آفری رپورٹ حقیقت حال سے بالکل برعکس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے انکو آفری میں حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا

ہے اور حقیقت کو چھپایا ہے، مزید جن اہلکاران کا بیان ریکارڈ کے گئے ہیں ان بیانات کی روشنی میں سائل پر کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہے۔

6- انکو آفری اسپر نے Finding صحیحہ وقت ریکارڈ پر لائے گئے مواد سے بالکل منہ موڑ کر اپنی طرف سے چارج شیٹ کی تائید میں بغیر

ثبوت کے ایسے الفاظ لکھ دیئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انکو آفری طریقہ کار کے مطابق انکو آفری اسپر اس بات کا پابند

ہوتا ہے کہ وہ چارج شیٹ کے الزامات کے ثبوت میں 100% صحیح شہادت ریکارڈ پر لائے گا، بصورت دیگر اہلکار کو الزامات سے بری

قرار دینا اور یہی قانون وقت اور انکو آفری طریقہ کار کا مقصد ہوتا ہے لیکن انکو آفری اسپر اور FRP/SP صاحب نے اصل حالات کو

پس پشت رکھ کر کارروائی کی ہے جو انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔

7- انکو آفری کے طریقہ کار کے مطابق جو آفری چارج شیٹ دے گا اور انکو آفری اسپر مقرر کرے گا وہی آفری انکو آفری کی Fiding وصول

کرنے پر مزید کارروائی کرے گا لیکن یہاں پر چارج شیٹ DPO لگی دیتا ہے انکو آفری اسپر مقرر کرتا ہے اور سزا کیلئے

SP/FRP کو کاغذات بھیجے جاتے ہیں، جو قانون کے برخلاف ہے، کیونکہ میرے چارج شیٹ کے جواب دہی میں جو نکات اٹھائے

گئے ہیں ان کو قبول کرنے اور رد کرنے کیلئے اس اتھارٹی کو اختیار ہے جو چارج شیٹ دیتا ہے، لیکن ریکارڈ پر ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے چارج شیٹ کے جواب کو آفران نے قبول کیا یا رد کیا۔

8- انکوآری آفسر کے Finding بھیجنے کے بعد یہ SP/FRP صاحب پر منحصر تھا کہ وہ انکوآری آفسر Finding کو انکوآری کے مواد

کی روشنی میں پرکھنے اور بعد میں اپنا حکم سناتے ہیں لیکن SP/FRP صاحب کی Finding اور انکوآری آفسر کی Finding کا ملاحظہ کیا جائے تو دونوں میں کافی فرق اور تضاد ہے اور چارج شیٹ کے الزامات سے بالکل مختلف ہیں۔

9- مردہ قوانین کے مطابق جب کسی الہکار کو بڑی سزا دینی ہو تو ان کو اپنے دفاع کیلئے مکمل موقع دیا جائے گا لیکن میرے انکوآری میں نہ

انکوآری آفسر نے اور نہ SP/FRP صاحب نے حکم صادر کرتے وقت ان حالات کا باغور جائزہ لیا ہو کہ ریکارڈ پر ایسی شہادت لائی جائے کہ مورد الزام کی گردان میں راسی مکمل طور پر فٹ آجائے لیکن یہاں پر زنجیر کی ایک کڑی بھی ایسی نہیں کہ دوسری کڑی کے ساتھ

باندھا جائے لیکن پھر بھی بلاشکوت و مواد کے مجھے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ انکوآری آفسر Finding کے مطابق اس نے مراد علی

انسپیکٹر، غلام محمد SHO، میراجان OASI، اور گل محمد ریڈر DSP/FRP کے بیانات ریکارڈ کئے ہیں لیکن انہی بیانات کو انہوں نے تسلیم نہیں کئے ہیں، پھر بھی مجھے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔

10- سائل ایک غریب آدمی اور خاندان کا واحد خود کفیل ہے اس مہنگائی کے دور میں بمشکل سے اپنی تنخواہ سے اپنی اور خاندانی ضروریات پوری

کرتے تھے۔ مگر سائل کو نہ کردہ گناہ پر بغیر کسی شہادت کے نوکری سے برخاست کیا گیا، جو کہ سراسر ظلم اور نا انصافی ہے۔

لہذا استدعا ہے کہ درج بالا حقائق کی روشنی میں حکم SP/FRP صاحب بنوں آرڈر بک نمبر 13 مورخہ: 06/01/2014 کو منسوخ

کر کے سائل کو نوکری پر بحال کیا جا کر سائل پر رحم کیا جاوے۔ سائل اور اس کا خاندان ساری عمر دعائیں دینگے۔

نوٹ:- سائل جناب کے روبرو خود پیش ہونا چاہتا ہے تاکہ حقائق مزید زبانی واضح طور پر بیان کر سکے۔ لہذا پیشی کی اجازت دی جاوے۔

مورخہ: 15/01/2014

العارض

سائل ایکس کنسٹیبل عمران خان 6577/spl ایف آر پی بنوں رجسٹرن بنوں۔ موبائل نمبر: 0302-8192182

اللہ  
67

A

17 / 10-2-14

P-16

Jif

ORDER.

This order shall dispose off on the appeal of Ex-Constable Imran Khan No. 6577 FRP Bannu Range against the order of SP FRP Bannu Range.

Brief facts of the case are that on 4/5 11-2013 the Terrorists ambushed Police Post Surkh Pull, started indiscriminate firing upon on duty Constables Sher Nawaz No. 6412; Imran Khan No. 6577 as a result of which FC Sher Nawaz was seriously injured while FC Imran Khan became senseless. FC Sher Nawaz No. 6412 succumbed to his injuries in the Hospital. The militants succeeded also in snatching away Govt. Rifle No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK Rifle No. 44615 along with bandolier consisting of 03 magazines of 90 rounds from the possession of both the aforesaid mentioned. SI/SHO Ps: Naurang reached the spot and register case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/393/404 PPC read with 7 ATA Police station Naurang District Lakki against the unknown terrorist. The DPO Lakki suspended SI/PC Naqib Ullah In charge PP Surkh Pull, FC Imran Khan No. 6577, Ismail No. 6508, Abdul Qayyum No. 6532 and Constable Rafi Ullah No. 6407 for badly failing to combat with the accused and showed great cowardice vide OB No. 552 dated 08.11.2013 The DPO Lakki charged him as under:-


1. That being a member of Police Force, in spite of repeated directions regarding vigilance and alert while discharge of duties in the present prevailing law and order situation and wave of terrorism.
2. That being negligent and careless in performance of duty he failed to identify the terrorist who ambushed the Police officials who were on sentry duty, which resulted the death of constable Sher Nawaz 6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in performance of duty as Police constable speaks of In efficiency seems his un-becoming of a good Police Officer and this amount to gross misconduct on part of the above named ex-constable liable to be punished under the Police Rules 1975.

In this connection Mr. Syed Waqat Ali Shah DSP Serai Naruq was appointed as Enquiry officer. After enquiry he recommend the defaulter ex-constable for Major Punishment. He was issued Final Show Cause Notice and also heard in person, but neither explanation nor personal hearing were found convincing and satisfactory, therefore he was dismissed from service under Police Rules 1975 by SP FRP Bannu Range vide his OB No. 13 dated 06.01.2014.

However from the perusal of record and recommendation of Enquiry officer there are no cogent reason to set aside the order of SP FRP Bannu Range. Therefore his appeal is rejected.

No. 1154-55

IEC dated 11/11/2014

  
Addl. IGP/Commandant  
Frontier Reserve Police  
Cyber Pakhtunkhwa Peshawar

12/2/2014

بعد الت چاپ سروس ٹریبونل صوبہ سرحد پشاور

اسلام آباد

منجانب

سکندر منٹ ویسٹ

بھام

عمران خان

دعویٰ اصل

### باعث شکریہ اینکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکیل کاروائی متعلقہ آل مقام پشاور کیلئے سید امان خان سے وٹس ایپ و کیٹ ہائی کورٹ کو وکیل مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کابل اختیار ہوگا نیز وکیل صاحب کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالثہ و فیصلہ برحلاف دینے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ اور عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تقدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور مستثنیٰ نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مشاور قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پرواختہ منٹویز قبول ہوگا و دوران مقدمہ میں جو فرجہ و ہرجانہ التواء مقدمہ کے سبب سے ہوگا اس کے مستحق وکیل صاحب موصوف ہوں گے نیز بقایا و فرجہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہوگا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام درہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکور کریں۔

لہذا وکالت نامہ رکھ دیا کہ سند ہے۔

المترجم

العبد العبد العبد

11  
ارباب

سید اللہ خان مروت  
ایڈووکیٹ

عمران خان

من روایت تاز  
ایڈووکیٹ

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR**

**Appeal No. 497/2014.**

Imran Khan S/o Mosam Khan, R/o Muslim Bagh  
Serai Naurang, Lakki Marwat, Ex-Constable No.6577.  
PS Serai Naurang, Lakki Marwat

..... (Appellant)

**VERSUS**

- 1) Addl: IGP/Commandant, FRP, KPK, Peshawar.
- 2) Provincial Police Officer KPK, Peshawar
- 3) Superintendent of Police, FRP, Bannu.

.....(Respondents)

**PARAWISE REPLY BY RESPONDENT NO. 1,2 & 3**

Respectfully Sheweth:

**PRELIMINARY OBJECTIONS**

- 1) That the appeal is barred by laws / time.
- 2) That the appellant has concealed the actual facts from the Honorable Tribunal.
- 3) That the appellant has approached the Honorable Tribunal with unclean hands.
- 4) That the appellant is estopped to file the appeal due to his own conduct.
- 5) That the appellant has no cause of action.
- 6) That the appeal is bad for mis joinder and non joinder of necessary parties.

**OBJECTIONS ON FACTS**

1. Incorrect. The performance of appellant during his service was not satisfactory.
2. On night between 4, 5-11-2013, terrorists ambushed Police Post Surkh Pul and started indiscriminate firing upon on duty Constables i.e. appellant and Sher Nawaz No.6412 as a result of which Sher Nawaz was seriously, injured and passed away in Hospital. Appellant showed cowardice, fled away from the Police Post and took shelter in the House of Nisar Khan. The miscreants took away rifles of both the officials. Appellant including other staff of the Police Post has committed severe negligence and cowardice during the combat with the terrorist's militants.
3. Correct to the extent that appellant was served with charge Sheet on 11-11-2013. The specific reasons for which appellant was charged is evidently shown in the summery of allegation of the charge sheet. In-fact the allegations framed on the appellant for his mis-conducts were in the light of police Rulls of 1975, as such on the eventful night appellant was on duty and in-spite of repeated directions form the superiors circulated time and again regarding vigilance / cautions and alert in the discharge of duties, but on the spot of occurrence appellant showed great cowardice act & badly failed to combat the miscreants who ambushed the police officials who were on sentry duty which caused great loss to the Police Department. Similarly the above high negligence and cowardice act in performance of duty as Police Force member speaks of in efficiency and unbecoming of good Police officer.


4. Incorrect. All the statements were recorded in the presence of appellant and opportunity of cross examination and defense were provided to him in accordance with law/rules.
5. Correct to the extent of final Show Cause Notice and reply which was found unconvincing and unsatisfactory.
6. Correct to the extent that dismissal order was passed after observing all codal formalities.
7. Incorrect. On 07-02-2014, departmental appeal of appellant was rejected and he was informed immediately through SP FRP Bann.


**OBJECTION ON GROUNDS**


- a) Incorrect. He with other Constable was present on duty but was not alert and showed gross negligence; resultantly terrorists attacked them from the close and open side.
- b) Incorrect. All codal formalities were fulfilled.
- c) Incorrect. Police Rules 1975 (amended) special rules are applicable to Police and the appellant was dealt and proceeded under the said rules.
- d) Incorrect. During attack of about two militants/terrorists, the appellant and Shaheed Constable have shown gross negligence and cowardice. Due to fear, the appellant has fled away from the duty and taken shelter in the nearby private house. Their K.K rifles were taken away by the militants.
- e) Incorrect. All the legal and codal formalities were observed during inquiry process. Opportunities of cross examination over witnesses and defense were provided to appellant.

**Prayer:**

Keeping in view of the above facts and circumstances, it is humbly prayed that appeal of appellant, being barred by law & time may kindly be dismissed with costs.

  
Addl: IGP/Commandant FRP  
KPK, Peshawar  
(Respondent No.1)

  
Provincial Police Officer,  
KPK, Peshawar.  
(Respondent No. 2)

  
Superintendent of Police,  
FRP Bannu  
(Respondent No.3)



## ORDER

On the night between 4/5/ 11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and started indiscriminate firing upon on duty Constables Sher Nawaz No.6412 and Constable Imran Khan 6577, as a result of which, FC Sher Nawaz was seriously injured while FC Imran Khan became senseless. FC Sher Nawaz No.6412 succumbed to his injuries in the hospital. The militants succeeded also in snatching away Govt Rifle No.26099229 along with fitted magazine containing 30 rounds and K.K Rifle No.44815 along with bandolier consisting of 03 magazines of 90 rounds from the possession of both the aforesaid mentioned constables. SI/SHO Police Station Naurang reached the spot and register case FIR No.592 dated 05-11-2013 u/s 302/324/393/404 PPC read with 7 ATA police station Naruang District Lakki Marwat against the unknown terrorists. The District Police Officer Lakki Marwat suspended SI/PC Naqib Ullah In-charge Police Post Surkh Pull, Constable Imran Khan No.6577, Ismail No.6508, Abdul Qayyum No.6532 and Constable Rafi Ullah No.6407 for badly failing to combat with the accused and showed great cowardice vide order OB No.552 dated 08/11/2013.

The DPO as competent authority Lakki Marwat charged Constable Imran No.6577 for the following misconduct.

1. That you being member of Police Force of the said police post Surkh pull in spite of repeated directions from the undersigned regarding vigilance and alert in the discharge of duties in the present prevailing law and order situation and wave of terrorism.
2. That being negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police officials who were on sentary duty, which resulted in the death of Constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in performance of your duty as police Constable speaks of inefficacy and suggest your unbecoming of good police officer and all this amount to gross misconduct on his part and liable to be punished under the Police Rules 1975.

Mr. Syed Liaqat Ali Shah DSP Serai Naruang was appointed as enquiry investigating enquiry proceedings. He conducted the formal enquiry properly and his findings on 28-11-2013 with the conclusion that all the charges /

allegations framed on Constable Imran Khan No.6577 stands proved. The same findings along with enquiry papers was received in this office to proceed further under the rules. The same enquiry file was forwarded to Addl. IGP/Commandant FRP K.P.K Peshawar for information and the same departmental enquiry of Constable Imran Khan No.6577 received back vide this office diary No.1826 dated 23-12-2013 for awarding Major punishment on the basis of findings of Enquiry officer.


Final Show Cause Notice of Major Punishment including dismissal was given to Constable Imran Khan No.6577 on 27/12/2013 and similarly the findings of the enquiry officer was also handed over to him. He was asked in the Show Cause Notice to put in his written statement/defense within 07 days of the receipt of Final Show Cause Notice as to why Major Punishment including dismissal could not be imposed upon him and also stating at the same time whether wants to be heard in person or otherwise.

He has replied to the Final Show Cause Notice within stipulated period which was studied and perused at length. He was also personally heard but his explanation to the Final Show Cause Notice and personal hearing was not found convincible and satisfactory. He was actually and physically on duty with the Shaheed Constable Sher Nawaz No.6412 but due to cowardice became senseless and did not make any response.

Constable Imran Khan No.6577 was recruited/enlisted as constable on 30-05-2005. Therefore, I Zar Wali Khan SP/FRP Bannu as competent authority impose upon him the punishment of Dismissal from service with immediate effect defined in rule 4-B (ii) KPK Police Rules 1975 on the basis of proven charges.

OB No. 13

Dated: 06-01-2014

  
Superintendent of Police  
FRP Bannu  
Superintendent of Police  
FRP Bannu

7715  
CS

**FINAL SHOW CAUSE NOTICE**

On the night between 4/5 -11-2013 the militants attacked on police post Surakh pull and made firing upon constables on duty as a result constable Sher Nawaz No. 6412 was injured and expired in the hospital while other constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The terrorists also snatched government rifle No. 26099229 and rifle No. 44815 with fitted magazine and rounds from the possession of both the constables. A case FIR No.592 dated 05/11/13 u/s 302/324/353/404 PPC/7ATA has been registered at PS Naurang.

You constable **Imran Khan No.6577** were charged for negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorist as sentry who ambushed the police officials who were on duty, which resulted in the death of the constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the police department in spite of repeated instructions from the senior officers regarding vigilance and alertness in the discharge of duties in the present prevailing wave of terrorism. Furthermore, you showed great cowardice and inefficiency and failed to combat the situation.

The DSP **Syed Liaqat Shah Sarai-e-Naurang** was appointed as inquiry officer and he conducted the inquiry and proved the charges. His findings received in this office was sent to the commandant FRP Headquarter Peshawar for guidance and the same received back in the office for awarding major punishment on the basis of the findings of the inquiry officer.

Therefore, I, **Zarwali Khan SP FRP Range Bannu** direct you through this final show cause notice to put in written statement/defense within seven days of receipt of this notice as to why the major punishment including dismissal should not be imposed upon you and also state at the same time whether you want to be heard in person. If your reply is not received within stipulated period it shall be presumed that you have no defense to offer and ex-parte action will be taken against you.

Name ,

Signature ,


Date ,

Mobile Number, 0302-8192182

عمران خان



(Zarwali Khan)  
Superintendent of Police  
FRP Range Bannu.  
Superintendent Of Police  
FRP/ Bannu



6577 PFP  
کے لئے ایک اور ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ

11/11/2013  
8051-52/SRC  
404-749A  
302-324-353  
592-592  
6577 PFP  
کے لئے ایک اور ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ

44815  
2809229  
6412 PFP  
کے لئے ایک اور ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ

4/11/2013  
کے لئے ایک اور ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ

6577 PFP  
کے لئے ایک اور ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ  
میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ

اسلام دین کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس کی بنیاد پر  
 قانون کی بنیاد ہے جو کہ اسلام میں ہے اور اس کی  
 بنیاد پر اس کا دفاع ہے اور اس کی بنیاد پر  
 کا پورا پورا فرق ہے۔

1. اس میں سے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
2. اس میں سے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
3. اس میں سے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
4. اس میں سے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اسلام کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس کی بنیاد پر  
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے  
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے  
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اسلام کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس کی بنیاد پر  
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے  
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

علاجاء

میں نے ان کی اور گواہی کے ساتھ دیکھی  
 اور یہ ہے کہ ان کی روایت میں  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی  
 گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی گواہی  
 کے ساتھ ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی  
 گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی  
 گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی


~~میں نے ان کی اور گواہی کے ساتھ دیکھی~~  
 اور یہ ہے کہ ان کی روایت میں  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی  
 گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی  
 گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی  
 گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ  
 ہے کہ ان کی گواہی کے ساتھ ہے کہ ان کی

ان کی گواہی کے ساتھ  
 28/11/2013

پراجکٹ رپورٹ


جناب عالی!

حوالہ مقدمہ عدالت نمبر 594 تاریخ 11/4/2013 جرم 302-324-353 PPC  
 TATA ٹھکانہ ٹورنگ معروض خدمت ہوں کہ جانے وقوعہ کا تفصیلی  
 جائزہ لیا۔ بدوران محاضرات ایک عدد سیکہ جلدہ خون آلود مل کر حوالہ 1:0  
 کیا گیا۔ جانے وقوعہ اور جانے وقوعہ کے آس پاس محل وقوع سے تصاویر  
 بھی لیں جو کہ پراجکٹ رپورٹ کے ہمراہ لف ہیں۔ گارڈ کمانڈر، کانسٹیبلان  
 کے بیانات بھی لیں گئے۔ نقشہ موقع بغرض ملاحظہ پیش خدمت ہے



پکچرنگ روزہ سیرکی ←

→ پکچرنگ روزہ مسلم باغ



- D.P.M. Lakho:
- ① Placed the entire strength of P.P. Supt. under suspension and proceed against them departmentally.
  - ② Issue charge sheet against SHO Naurang for weak supervision.
  - ③ report action with in come with in due course of time

برقت وقوعہ عمران نامی کانپس، شہید کانپس شہر نواز خان کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا  
 جانے وقوعہ کے چاروں اطراف کھلا علاقہ ہے۔ جس وقت ہم جانے وقوعہ پر  
 پہنچے اس وقت عمران کانپس بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال میں زیر  
 علاج تھلا گیا۔  
 P.T.O

*[Signature]*  
 DIG/B  
 57/14

FIR گارڈ کمانڈر چوکی سوریل <sup>Pc</sup> ای نقیب اللہ کا بیان لیا جس نے اپنے بیان میں  
 کی رپورٹ کی تائید کی۔ ملزمان کے بارے میں اُسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور  
 رات کی تارکی کو جواز بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ سنٹر میچر اور  
 گارڈ کمانڈر اور گارڈ کے کمرے کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر فائرنگ  
 کساکھ وہ الرٹ ہو جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ کانٹیلان کے بیانات بھی لے گئے جنہوں  
 نے گارڈ کمانڈر کے بیان کی تائید کی۔ اُن کے بیانات سے بھی معلوم ہوا کہ کانٹیلان  
 میں سے جب اللہ 630 اور ربیع اللہ 6407 جو کہ مسجد (عربی سائڈ) کے ساتھ  
 چلے گئے میں سوئے ہوئے تھے۔ اگر وہ بروقت الرٹ ہوتے اور ملزمان کے تعاقب  
 کیلئے نکل آتے۔ تو اسی صورت میں بھی ملزمان کو اس طرح آسانی سے فرار ہونا اور  
 سرکاری کلاسنگوف لیجانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن سب کے سب بزدلی کے مرتکب  
 ہوئے ہیں۔ گارڈ کمانڈر اور کانٹیلان کے بیانات ہمراہ لے لئے ملاحظہ ہیں۔  
 جب گارڈ کمانڈر سے پتہ براری کی گئی۔ کہ کانٹیلان جو کہ بوقت وقوعہ بھاگ گیا تھا۔  
 اُس کا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ اُس کی چادر  
 کافی دور جانب شمال خالی اراضیات میں ملی۔ اور وہ مکان سُستی سار ولدیاں  
 سکنہ نار سلطان محمود میں پناہ لے چکا تھا۔ سُستی سار نے بعد ازاں ہمیں مطلع کر دیا۔  
 کہ اسے کہیں اور نہ ڈھونڈیں۔

مر چوکی سوریل گارڈ کرہ جات کے شمال شرقی سائڈ پر بالکل ملحقہ ایک بھٹہ خست  
 ہے۔ جس کے مزدوران سے دریافت کی دریافت پر معلوم ہوا کہ رات کو غلام  
 فرید ولدل بدن شاہ سکنہ مصوری عمیل ڈاکخانہ والخی عمیل تحصیل وضع ہون  
 اور مرید ولد اطلس خان سکنہ سوریل علاقہ تھانہ نوزنگ کی بھٹہ خست  
 میں آگ لگنے کی ڈیوٹی تھی۔ دونوں مزدوران سے تفصیلی بیانات لئے  
 جو کہ ہمراہ لف وائل ملاحظہ ہیں۔ ہر دو مزدوران نے اپنے بیانات میں بتلایا  
 کہ ایک ڈیسر (ٹرک نما) گاڑی جو اینٹوں سے لوڈ شدہ تھی جانب شمال روڈ  
 سے آئی اور چوکی کساکھ موڑ کاٹتے فائرنگ یعنی برسٹ ہوئی۔ برسٹ کے  
 بعد دو یا تین سنگل فائر مزید بھی ہوئے۔ ہم ڈر کے مارے بھٹہ خست میں  
 شاہ لی۔ اُس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ بھی رکا۔ اور وقوعہ کے بارے میں

بقیہ پولیس والوں کے زبانی معلوم ہوا۔ PTO



اس کے بعد نثار ولد میاں خان سکندر سلطان محمود حسن کے ہاں کانپس عمران  
 بھاگ کر بناہلی تھی، کانپس تفصیلی بیان لیا۔ جس نے اپنے بیان میں بتلایا کہ کل  
 میں گھر میں موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ  
 عمران نامی کانپس ہے اور وہ کچھ لوہے کے قابل نہیں تھا۔ مزید جب اسلحہ کے  
 بارے میں دریافت کیا۔ کہ اس کے پاس کلاشنکوف سرکاری موجود تھا یا نہیں؟  
 تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ نثار کے بھائی عبدالصمد سے بھی تفصیلی  
 بیان لیا۔ جو کہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

اس کے بعد وقت وقوع کو مدنظر رکھتے ہوئے جانب شمال روڈ پر حملہ بمحکمہ خست  
 سے دریافت شروع کی۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ سہم محکمہ خست واقع شاخ  
 قلی خان موڑ سے ڈسٹرکٹ (لوڈ شدہ) بائوٹیل ڈرائیور مندر شاہ سکندر نامعلوم  
 مریاٹ نمبر 566484-0300، 566484-0331 وقوع سے کچھ لمحات قبل  
 طرف مسلم باغ نکلی ہے۔ ڈرائیور مذکورہ سے جب مریاٹل سرور وقوع کے بارے  
 میں دریافت کی۔ تو اس نے بتایا کہ وہ شمال کی طرف سے جوئی کیسا تو موڑ کا  
 طرف مشرق روڈ جو وہی چند گز کے فاصلے پر آئے گیا۔ تو میں نے فائرنگ کی  
 آواز سنی۔ اور جس وقت میں موڑ کاٹ رہا تھا تو سنتری بوٹ کے لستے ٹھیک  
 کر رہا تھا جبکہ دوسرا سنتری کا سنتری پوش سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مزید  
 یہ بھی فون پر بتلایا کہ پولیس جب بھی تھے بیان کیا کسی قسم کی تعاون کیلئے  
 طلب کرنا چاہیے تو میں حاضر آنا ہونگا۔

اس کے بعد عمران کانپس کے گھر گئے جو اب ہسپتال سے ڈسپارچ ہو چکا تھا۔  
 اس نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ گاڑی آئی اور میں سنتری پوش کیسا منے کھڑا تھا کہ  
 کافی تعداد مسلح نواب پوش تھے غزلی سائڈ سے آجائنا ہم پر دھاوا بول کر  
 مجھے دھکا دیا۔ اور فائرنگ بھی ہوئی۔ میں بھاگ گیا۔ مجھے سرکاری رائل  
 کانپس کچھ تپہ میں چلا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کس طرح اور کہاں  
 تک بھاگ گیا ہوں۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہسپتال میں ہوش آیا۔  
 مزید یہ بھی کہا کہ میں مرگی (ڈزائٹرنے کا مرض) ہوں۔

سید کانٹیل اور کانٹیل عمران کے موبائل فون قبضہ میں لیکر خوالہ 1:5 عنایت اللہ  
تعمانہ ٹورنگ کے گزرتے اور اسے ہدایت دی کہ دونوں موبائل فون عینات کا متعلقہ  
حکام سے قبضہ ڈیا حاصل کریں۔

عالمہ! میرے دوست کے مطابق حملہ گارڈ جمعہ گارڈ کمانڈر نے اس وقت تک  
چوکی سے باہر نکلتے ہی ہیں جب مکمل خاموشی چھا گئی ہے۔ تو وہ گارڈ کمرہ  
جات سے باہر نکلتے ہیں جو کہ سنگین سزدلی ہے۔ کانٹیل عمران جو کہ  
سید کانٹیل کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ وقوعہ کا چشم دید گواہ کے بہن  
خانہ بوجھ کر نقشہ ٹیم سے تعاون نہیں کرتا۔ اسے وقوعہ کا مکمل علم ہے۔  
میری لے جانے کے مطابق وقوعہ ایک ماڈرن ملازمان نے کیا ہے۔ اگر بدست  
گورڈ تنظیم ہوتی تو میرے خیال میں گارڈ کمرہ جات میں سوتے ہوئے ملازمین  
کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ اگر کانٹیل عمران کو صحیح اسٹارڈ گیٹ  
کیا جائے تو میرے خیال میں ملزم / ملازمان تک بڑی آسانی سے چھپا  
جاسکتے ہیں۔

مزید یہ بھی آپ صاحبان کو اس میں لانا چاہتا ہوں کہ گارڈ جسٹریٹ چیک کیا گیا۔  
معلوم ہوا کہ جسٹریٹ (مورخہ 2012-7-20) سے تاحال گارڈ / ملازمین کو حملہ  
سپر ویزنری آفسرز نے صرف دو مرتبہ چیک کئے ہیں۔ جسٹریٹ کے مطابق  
مورخہ 2013-6-01 کو لائن آفسر اور مورخہ 9-13-7 کو SHO ٹورنگ  
نے چوکی گارڈ چیک کر کے ملازمین کو چوکی سوہل کو ضروری ہدایات  
دئے ہیں۔ باقی کسی نے بھی چوکی کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں  
کی ہے۔ جو کہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔

سندھی پوش غیر محفوظ اور نوسدہ کا کافی دور سے بھی اس کو بڑی  
آسانی سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ رہائشی کمرہ جات بھی غیر محفوظ ہیں۔  
اور خستہ حال ہیں۔ آئندہ کسی نقصان سے بچنے کی خاطر اس کی مناسب  
تعمیر امرت از حد ضروری ہے۔ جبکہ حالات کے پیش نظر نظری  
کی تعداد کم ہے۔ مزید اگر بڑھائی جائے تو کارسہ کار کئے سود  
مزدور ہوگا۔

مزدبہ کی سوریں میں کل آٹھ بلٹ بروں جیکٹ پڑے تھے۔ نوبت  
 وقوعہ ستریاں نے کھینچ کر بلٹ بروں جیکٹ میں لہنے تھے۔ اور  
 نہ ہی اس بابت گارڈ کمانڈر نے اپنے فرائض انجام دیئے ہیں۔ گارڈ کمانڈر  
 نسوے اور گارڈ کانسٹبلان نزدیکی، لاہور ایسی اور فرائض سے غفلت کی  
 بنا پر محکمہ کاروائی کی استدعا کی جاتی ہے۔ 1:00 بجے لے کر فرائض  
 صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کیونکہ نہ اس  
 کے ملازمین سے اور جہاں سے عمران کانسٹبل برآمد ہوا ہے۔ اس  
 مالک مکان سے بھی بیانات قلمبند کیئے ہیں۔ گارڈ کانسٹبلان  
 گارڈ کمانڈر کے بیانات مفروضہ اور اپنی نا اہلی کو قصبانے  
 کیلئے مقدمہ کو غلط رخ دینا چاہتے ہیں۔

اصل تنظیم تک پہنچنے کیلئے کانسٹبل عمران اور ڈسٹرکٹ انسپور  
 مقدر شاہ سکندر نامعلوم نمبر 0331-5664484 -  
 03005664484 د 0331-5664484 سے کوائٹڈ کیا جانا از حد ضروری  
 ہے۔ لہذا اس بابت ڈی پی او مکتوت اور SP انسپکشن مکتوت  
 کو مناسب ہدایات دی جاویں۔

رپورٹ مرتب ہو کر گزارش ہے


*[Signature]*  
 RPEO  
 6.11.2013

Attested  
*[Signature]*  
 17/11/2013


بیان کردن عقد شرفان ۴۵۰ حضانہ اور نفی

نے بدرفتاری بیان کیا کہ سب رسوم ۱۱/۸۳ کو رسوم نیکو اور صلح ملنے ہی  
 قوی طور پر عین نفی جو کہ سو و پل پہنچا۔ انکار جو کہ سو و پل لقبہ اللہ  
 صحتی ہو کر جبکہ اور صحت کو میں لکھ کر حضانہ معیورہا۔ جس پر رقم 592  
 صحتی ۱۱/۸۳ 5 دہم 302-324-353 404-7ATA  
 جمع حالت دروغی کا جائزہ لینے پر میں پہنچے اور سچاؤں کہ ماہی مانہ  
 نفی لقبہ اللہ جو کہ پیش عمران 6577، رضی اللہ 6493، عبداللہ 6532  
 حسب رقم 630 سب کہ سب نبرد کے نبرد کے کڑے ہوئے ہیں۔  
 اکثر نفی نبرد کا نظام نہ کرتے۔ تو رسوم کا پس منتظر تھے اور سچاؤ۔  
 میں سچاؤ بیان ہے۔ میں کہ جو در صحت ہے۔

Handwritten note on the right margin.

  
 (Hof/Nawaz)  
 20-11-13

X X X  
 عمران 6577

Attested  
  
 Hof/Nawaz  
 20-11-13

و درج میں کو موقع دیا گیا ہے تو ان کو  
 جو خوش خود لکھ کر میں کرنا نہیں چاہیے

عمران خان معلم نور  
 11201-8388672-5

Handwritten note on the bottom right corner.

CHARGE SHEET.

WHEREAS, I am satisfied that a formal Enquiry as contemplated in the KPK, Police Rules 1975 is necessary and expedient.

AND WHEREAS, I am of the view that the allegations if established would call for a major penalty as defined in Rules-4 (b) of the aforesaid Rule.

NOW, THEREFORE, as required in 6-1 (a) of the aforesaid Rule, I, Bashar Khan, District Police Officer, Lakki Marwat as Competent Authority hereby charge you Const: Imran Khan No. 6577/FRP PP Surkh Pull the allegations are attached with this Charge Sheet.

AND I direct you further under rules 6-1 (b) of the aforesaid Rules to put in written defence within 07 days of the receipt of this Charge Sheet as to whether major or minor punishment as defined in Rules 4-1 (a) -- (b) should no be imposed upon you also state at the same time whether you desire to be heard in person.

In case, your reply is not received within stipulated period without sufficient reason, it would be presumed that you have nothing to say in your defence and the undersigned would be at liberty to take ex-parte action straight away against you.

(Bashar Khan)  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

No. 805/52 / SRC, Dated Lakki Marwat the 4/11 /2013.

Copy to :-

1. Mr. Syed Liaqat Shah DSP Naurang, Enquiry Officer for initiating enquiry proceeding against the defaulter police officer/ official under the Rules.
2. Const: Imran Khan No. 6577/FRP Surkh Pull is directed to appear before the Enquiry Officer/ Committee on due date, time and place fixed by the Enquiry Officer for the purpose of enquiry proceedings and also to put in a written statement/ defence with in a period of 07 days.

*Handwritten signature and date:*  
عمران خان  
11-11-13

*Handwritten signature:*  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

(10)

SUMMARY OF ALLEGATION

On the night between 4/5-11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and opened indiscriminate firing upon Constables Sher Nawaz No. 6412 Constable Imran Khan No. 6577, as a result thereof, Constable Sher Nawaz sustained severe injuries and later expired in the Hospital, while Constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The accused/ terrorists also took away Govt: Rifles No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK-Rifle No. 44815 alongwith bandolier containing three (3) magazines loaded 90 rounds of the same bore from the possession of the above noted officials and case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/353/404 PPC/7-ATA PS Naurang was registered.

1. That you being member of Police force of the said Police Post Surkh Pull in spite of repeated directions from the undersigned regarding vigilance and alert in the discharge of duties in the present prevailing Law & Order situation and wave of terrorism, failed to combat the above noted situation and showed great cowardice.
2. That being negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police official who were on Sentary duty, which resulted in the death of constable Sher Nawaz No. 6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in the performance of your duty as Police Constable speaks of inefficiency and suggest your unbecoming of good Police Officer and all this amount to gross misconduct on your part and liable to be punished under the Rules-1975.

وہ شہر

—————  
عمران خان سہروردی  
11-11-2013

  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

قلم  
sh  
m  
m  
a  
sup  
SHO  
En  
ach  
no  
C  
-  
ع  
لا

**BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

S.A. No. 497/2014

Imran Khan

Versus

Commandant & others

**REJOINDER**

**Respectfully Sheweth,**

**Preliminary Objections:-**

All the 06 preliminary objection are illegal and incorrect. No reason in support of the same is ever given as to why the appeal is barred by laws/time, appellant has concealed the actual facts, he has come with unclean hands, estopped to file the appeal due to his own conduct, he has no cause of action and appeal is bad for mis & non joinder of necessary parties.

**ON FACTS**

1. Not correct. The para of the reply is without proof regarding unsatisfactory service.
2. In response to this para of reply, it is submitted that nothing against the para of the appeal as brought on surface but the para of the appeal further explained by the respondent. Neither any cowardice or negligence was shown by the appellant but the police party indulged to shift the injured to hospital.
3. Admitted correct to the extent of service of charge sheet and reply thereto. Appellant along with others was quite alert in the discharge of duties but in meager numbers 5 personal could not combat with large number of miscreants. The recent incident of Army Public School in the heart of the city as well as Bacha Khan University where hundred and thousand police personals, FC and

Army Personal etc, were present but could not overcome the situation.

4. Not correct. The para of the appeal is correct regarding recording of statements in presence of appellant as well as cross examination over the witness(s).
5. As above. But here it would be not out of place to mention that similarly placed FRP Constable, namely Muhammad Ismail was reinstated in service by the respondent.
6. No codal formalities were ever observed. The final show cause notice was not supported by enquiry proceedings/report. The enquiry report it was admitted by the Inquiry Officer in the findings that appellant has never displayed any cowardice.
7. Not correct. The rejection order was not served direct by the appellant but the same was dispatched through postal service which was received by him on 10.04.2014.

**GROUND S:**

- a. Not correct. Such fact of presence on duty was admitted by the respondents in this ground of the reply. He was quite alert and no negligence was shown by him.
- b. Not correct. Reply regarding conduct of enquiry has been given in the preceding paras of facts.
- c. Not correct. Law should have been mentioned in the charge sheet as well as the final show cause notice under which appellant was dealt with.

If cowardice was shown by the deceased police official namely, Sher Nawaz Khan then he should have not awarded with compensation of shaheed package of Rs. 30,00,000 etc.



- d. Not correct. The live examples were the incidents of Army Public School as well as Bacha Khan University.
- e. Not correct. The ground of the appeal is correct.

It is, therefore, most humbly requested that the appeal be accepted as prayed for.

عمران خان

Appellant

Through

Saadullah Khan Marwat

Dated: .01.2016

Arbab Saif Ul Kamal

Miss Rubina Naz  
Advocate,

### AFFIDAVIT

I, Imran Khan S/o Mosam Khan, Appellant, do hereby solemnly affirm and declare that contents of **Rejoinder** are true and correct to the best of my knowledge and belief. While that of the reply of respondents are illegal and incorrect.

I reaffirm the same on oath once again to be true and correct as per the available record.

عمران خان

DEPONENT

ٹاؤننگ انکوائری ٹیم کے خلاف کانپٹل جی بی ایچ 630  
FC

جی بی ایچ! موروثی ذمت ہو۔ کہ صرف 11/2013 کو نامعلوم ملازم نے عدم ادراک  
 سوشل سیکرٹریٹ میں نوٹس نوٹس پر ٹاؤننگ کی حق کا ٹاؤننگ  
 سے کانپٹل شہزادہ 6412 گد زخمی ہوا جو کہ جان بحق ہوا جس کے مدفن  
 شہزادہ 6412 کی سرکارا رائس دہلی ان صفا 4577 کی سرکارا رائس  
 کدائٹنگف کا فرائٹ 26099229، 44815 جمع ایک ٹیڈو  
 (4) عدالت میں سول 120 عدالت میں 7.62 براپر انکوائری  
 کی گئی ہے۔ اس واقعہ کا نتیجہ 592 عدالت میں 11/2013  
 ٹاؤننگ ذمہ دار کانپٹل جی بی ایچ 630 کی سرکارا رائس 302-324-325  
 خلاف الزام ہے کہ مذکورہ جی بی ایچ 630 جمع دیگر متہم ایس کاروں کے نزولی  
 کے خلاف سے منفعت کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ فحش نزولی کے وقت سے مدفن  
 بعد از قتل جگہ جانے سے کامیاب ہو۔ الزام علیہم کے خلاف فحش 630  
 کی سرکارا رائس نے چارج شیٹ و سرکارا رائس 46/592-8045-46/592 عدالت میں 11/2013 جاری  
 سے کے خلاف ٹاؤننگ انکوائری کے اور دن چاہے ٹاؤننگ کی انکوائری  
 کو غیر متاثر کرنے کے احکام صادر ہو رہا ہے۔

دریں انکوائری الزام علیہم جی بی ایچ 630 نے چارج  
 شیٹ و سرکارا رائس 46/592-8045-46/592 کے رہنما

بین دیگر پیشہ کی۔ جہاں بیان خود میں خود کے گناہ اور بے قصور  
تھا یا۔

دوران انکوائری ندرت میں گواہی بلیدہ کا و آرفی  
بیانات موجود گی ان نام بلیدہ جیل کے ۱۹۳۶ء میں  
ان نام بلیدہ کو اپنا دفاع کرنے اور گواہی پر جبرے رت کا پورا  
پورا موقع دیا گیا۔

- ① سراد میں خان رنیکہ انوشی گینن سرمل نوزنگ۔
- ② مندرام مہر خان ۱۹۱۵ نوزنگ۔
- ③ میرا خان ایسے FRP نون بیج۔
- ④ اجمل خان ایسے ڈسٹرکٹ پریس فلیک مکتوت۔
- ⑤ گل فر FRP ۱۹۳۹ ایگر DSI FRP نوزنگ۔

مذکورہ گواہیوں سے ازاں آئندہ گواہوں کی تاثر و ثبوت کا یہ

اسلام اور فاروق بن انہار RPEO نون ریجنل ٹری کی  
توری اور بی بطور ثبوت قابل کے نف انکوائری بنا  
ہے۔ یہی واقعے اور خلاف افواہوں کی ہے۔  
۱۹۳۵ء میں جیل کے دیگر ایسے کاروں میں سوشل  
جیک پوسٹ پر نون کا مظاہرہ کے ملاحظہ کی گئی تھی۔

(3)

(18)

(43)

نے کے بجائے فرار ہو رہی ہیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ہر طرف  
دکھن میں ہے ہے ہے ہے۔

ملا لیا! گوانہ کے مندر شدہ اور انگریزی کے پانچ  
کے تھوڑے جیسے 630 نے ڈوئی میں منقالت کو نام  
کے ساتھ فریڈ کا فیلڈ ہے۔ جو نورس  
نہیں رکھنا انصاف کے برعکس ہے۔ جو گینگ اور قہور  
ٹھوڑا پاتا جاتا ہے۔ مگر MAJOR نہایت کی نشانی  
ہے۔ کاغذات انگریزی میں بیانات مندر شدہ لطف مندر  
رہے نہت ہیں۔

لکھنؤ  
سیدت شہدہ بیگم نورنگ  
انگریزی افتر  
2013-11-29



انڈین ایئر فورسز ایف آئی ایف سی

انڈین ایئر فورسز ایف آئی ایف سی کیٹل مین عمان ایم 6577

تفصیل کارروائی

تاریخ دفعہ کارروائی

پرنتھ

06-01-2014

5

کمانڈر ایئر فورسز عمان ایم 6577  
 کوکہ منٹا سے گنہگار ثابت ہو گیا  
 جس کو Major Punishment کے طور پر  
 طرفہ کر کے حکم منٹا ہے۔ تفصیلی آرڈر عدالت

SP/AF/BA

OBN 0-13  
 Date: 06/01/2014

از دفتر: ڈی ایس ڈی سول سروس نونہل  
 آرڈر شیٹ نمبر کاروائی برطانوی  
 FRP 6577

تاریخ	تفصیل کاروائی
13.11.13	1 اوفز صدر ج 50 سہری آف ایسین 8051-52 قریب 13.11.13 اظہارِ دفعہ SDPO کو قلمی کاروائی کے طور پر

SDPO/144

18.11.13	2 اوفز الزام علیہ افسر و صاحبِ جوارب سہری آف ایسین تسلی کے طور پر قلمی کاروائی کے طور پر
----------	--

SDPO/144

19.11.13	3 اوفز الزام علیہ افسر کو فرد ڈی ایس ڈی سول سروس سہری آف ایسین 13 قریب 20.11.13 کو طلب کے طور پر
----------	--

SDPO/144

20-11-13	4 افسر طلبہ گھبران الزام علیہ صاحبہ کے بیان کے طور پر قلمی کاروائی فائنل رپورٹ کے طور پر
----------	--

ضلع عالی

پورے مذمت ہو۔۔۔ عرصہ 11/4/2013 کو نامعلوم بلوچان سے

جیک پوسٹ واقع علاقہ سرائے نورنگ پر حملہ آور ہو کر کانٹ

شیر نواز 6412/FRP کو قتل کر کے (2) عدد حادثہ کی تصدیق

26099229 ، 44815 سرکار کا معنی پڑھو گھر میں (4) میں

120 عدد کا (توبہ) 7 بورڈ لینے تاکہ بعد از (توبہ) کے اور

موت سے قتل ہوئے۔ یہ واقعہ اطلاع پاکر خدایم 5/4/13

17/1/13 سے 592 عرصہ 11/5/2013

یہ کر کا پتہ 302-324-353  
789A-404

6577 FRP نے بزدلی۔ غنڈہ اور راہروای کا فضا

مذمت کی گئی، قتل کرنے کے لئے قتل کرنے والوں۔ طوفان۔

گھروں سے جائزہ لیتے ہوئے قتل کرنے والوں۔ طوفان۔

کارکنان کے خلاف فی کمانڈ انکی اپنی سرگرمیوں اور فن کاروں

آرٹھ فورسز کے اہلکاروں کے خلاف

دستاویز انکی اپنی اور نام عام عمران 6577/FRP

جائزہ لیتے ہوئے قتل کرنے والوں۔ طوفان۔

میں قتل کرنے والوں۔ طوفان۔



اسلام آباد کے صدر کے ذریعہ گواہی حاصل  
حقوق کے بیان سے جو (۱) الزام ملے گا  
الزام ملے گا اس کے ذریعے اور گواہی پر  
کا پورا پورا ثبوت دیا گیا ہے۔

1. سربراہان کے ان کے ذریعے ثبوت ملے گا۔
2. مذکورہ نمبر کے SHO نوٹس۔
3. میراثی ARPOAS نمبر 1000۔
4. گلی نمبر 6636 اور ARPOAS نوٹس۔

مذکورہ گواہی کے بیانات فورس از ان کا ماٹریل کے ذریعے  
میں سے ان الزام ملے گا جو درج بالا گواہی کے  
بیانات سے ثابت ہے۔ الزام ملے گا نمبر 6577 کے نوٹس  
کا نظریہ کے ذریعے سے ثبوت اور گواہی کا رتک ہے۔

اسلام آباد کے خارجہ سیکرٹری ARPOAS  
کی رپورٹ کے طور پر میراثی ان کے ذریعے ثبوت ہے۔  
یہ الزام کے ساتھ ہے۔

مالی جاء

سنگی انڈیا اور گواڈی کے ساتھ

اور کے ساتھ روروشن کے لئے مطالعہ

کے لئے گواڈی کے لئے 2012

تحت کے لئے گواڈی کے لئے

کے لئے گواڈی کے لئے

کے لئے گواڈی کے لئے

کے لئے گواڈی کے لئے



~~Handwritten signature~~

انڈیا کے لئے

2013/11/28


جہاں علی! :- پرائرس رپورٹ :-

حوالہ مقدمہ عدالت نمبر 594 تاریخ 11/2013 4 جرم 302-324-353  
 7ATA تھانہ نوزنگ معرض خدمت ہوں۔ کہ جائے وقوعہ کا جائزہ لیا۔ بدوران معائنہ ایک عدد سکے جلدہ خون آلود مل کر حوالہ کیا گیا۔ جائے وقوعہ اور جائے وقوعہ کے آس پاس محل وقوع سے بھی لے کر جو کہ پرائرس رپورٹ کے ہمراہ لف ہیں گارڈ کمانڈر، کانسٹیبل کے بیانات بھی لے گئے۔ نقشہ موقع بغرض ملاحظہ پیش خدمت



← کیمرہ ٹرک روزہ سیرکی

→ تختہ ٹرک روزہ مسلم باغ



- DPW Lakhs:
- ① Placed the entire strength of P.P. Surpal under suspension and proceed against them departmentally.
  - ② Issue charge sheet against SHO Naurang for weak supervision.
  - ③ report action with and come with in due course of time

بروقت وقوعہ عمران نامی کانپس شہید کانپس شہید نواز خان کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا جائے وقوعہ کے چاروں اطراف کھلا علاقہ ہے۔ جس وقت ہم جائے وقوعہ پر پہنچے اس وقت عمران کانپس بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال سیدیر علاج بتلایا گیا۔

P.T.O

57/17

گارد کمانڈر چوکی سوریل Pe از نقیب اللہ کا بیان لیا جس نے اپنے بیان میں FIR  
 کی رپورٹ کی تائید کی۔ ملزمان کے بارے میں اُسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور  
 رات کی تاریکی کو جواز بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ سنٹر میچورس اور  
 گارد کمانڈر اور گارد کے کمرے کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر فاصلہ  
 لیا جاتا تو یہ ہوجاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ کانسٹیبلان کے بیانات بھی لئے گئے۔  
 نے گارد کمانڈر کے بیان کی تائید کی۔ اُن کے بیانات سے بھی معلوم ہوا کہ کانسٹیبلان  
 میں سے جب اللہ 630 اور رفیع اللہ 6407 جو کہ مسجد (عربی سائڈ) کے ساتھ  
 ملحقہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اگر وہ بروقت ارٹ ہوتے اور ملزمان کے کتھا  
 کیلئے نکل آتے۔ تو اسی صورت میں بھی ملزمان کو اس طرح آسانی سے فرار ہونا  
 سرکاری کلاسٹونکوں لیجانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن سب کے سب بزدلی کے مرتکب  
 ہوئے ہیں۔ گارد کمانڈر اور کانسٹیبلان کے بیانات ہمراہ لف برائے ملاحظہ ہیں۔  
 جب گارد کمانڈر سے پتہ براری کی گئی۔ کہ کانسٹیبل عمران جو کہ بوقت وقوعہ جھاگ گیا تھا  
 اُس کا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ اُس کی چادر  
 کافی دور جانب شمال خالی اراضیات میں ملی۔ اور وہ مکان مشرقی سارولریاں  
 سکنہ نارسلطان محمود میں پناہ لے چکا تھا۔ مشرقی سار نے بعد ازاں اس میں مطلع کر دیا۔  
 کہ اسے کہیں اور نہ ڈھونڈیں۔

چوکی سوریل گارد کمرہ جات کے شمال مشرقی سائڈ پر بالکل ملحقہ ایک بھٹہ خشت  
 ہے جس کے مزدوران سے دریافت کی دریافت پر معلوم ہوا کہ رات کو غلام  
 فرید ولد دل بدن شاہ سکنہ مصوری محل ڈاکانہ والی جمہ محل تحصیل وضع ہون  
 اور نرویز ولد اطللس خان سکنہ سوریل علاقہ کھانہ لوزنگ کی بھٹہ خشت  
 میں آگ لگنے کی ڈیوٹی تھی۔ دونوں مزدوران سے تفصیلی بیانات لئے  
 جو کہ ہمراہ لف وائل ملاحظہ ہیں۔ ہر دو مزدوران نے اپنے بیانات میں بتلایا  
 کہ ایک ڈیسر (شکر نما) گاڑی جو اینٹوں سے لوڈ شدہ تھی جانب شمال روڈ  
 سے آئی اور چوکی کے ساتھ موڑ کاٹتے فائرننگ یعنی برسٹ ہوئی۔ برسٹ کے  
 بعد دو یا تین سنگل فائرز مزید بھی ہوئے۔ ہم ڈر کے مارے بھٹہ خشت میں  
 شاہ لی۔ اُس کے بعد فائرننگ کا سلسلہ بھی رکا۔ اور وقوعہ کے بارے میں  
 باقی پولیس والوں کے زبانی معلوم ہوا۔

اس کے بعد سار ولد میاں خان سکندر مار سلطان محمود جس کے ہاں کانٹیسل عمران  
 بھاگ کر پناہ لی تھی، کانٹھی تفصیلی بیان لیا۔ جس نے اپنے بیان میں بتلایا کہ کل اس  
 میں گھوس موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ  
 عمران نامی کانٹیسل ہے اور وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ مزید جب اسلحہ کے  
 بارے میں دریافت کیا گیا کہ اس کے پاس کلاشنکوف سرکاری موجود تھا یا نہیں؟  
 تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ سار کے بھائی عبدالصمد سے بھی تفصیلی  
 بیان لیا۔ جو کہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

اس کے بعد وقت وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے جانب شمال روڈ پر حملہ ٹھہر  
 سے دریافت شروع کی۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ سرم ٹھہر خشت واقع شاخ  
 تلی خان موڑ سے ڈیمپ (مرک) لوڈ شدہ بائیکس ڈرائیور مقدر شاہ سکندر نامعلوم  
 موبائل نمبر 566484-0300-566484، وقوع سے کچھ لمحات قبل  
 بطرف مسلم باغ نکلی ہے۔ ڈرائیور مذکورہ سے جب موبائل پر وقوع کے بارے  
 میں دریافت کی۔ تو اس نے بتایا کہ وہ شمال کی طرف سے جوگی کیسا ٹھہر موڑ گئے  
 بطرف مشرق روڈ جو پہلی چند گز کے فاصلے پر آئے گیا۔ تو میں نے فائرننگ کی  
 آواز سنی۔ اور جس وقت میں موڑ کاٹ رہا تھا تو سنتری بوٹ کے تسمے ٹھک  
 کھڑا تھا جبکہ دوسرا سنتری <sup>خال</sup> سنتری پوش سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مزید  
 یہ بھی فون پر بتلایا کہ پولیس جب بھی تھے بیان مایا کسی قسم کی تعاون کیلئے  
 طلب کرنا چاہئے تو میں حاضر آنا ہوں گا۔

اس کے بعد عمران کانٹیسل کے گھر گئے جو اب ہسپتال سے ڈسپارچ ہو چکا تھا۔  
 اس نے بتایا کہ ڈیمپ گاڑی آئی اور میں سنتری پوش کیا منے کھڑا تھا کہ  
 کافی تعداد مسلح نواب پوش تھے غزنی سائڈ سے آجانک ہم پر دھاوا بول کر  
 تھے دھکا دیا۔ اور فائرننگ بھی ہوئی۔ میں بھاگ گیا۔ تھے سرکاری راتھل  
 کانٹھی کچھ تسمے چلا اور تھے یہ بھی تسمے نہیں چلا کہ میں کس طرح اور کہاں  
 تک بھاگ گیا ہوں۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہسپتال میں ہوش آیا۔  
 مزید یہ بھی کہا کہ میں مرگی (دزرائٹنگ کامریض ہوں)۔

شہد کانٹیل اور کانٹیل عمران کے موبائل فون قبضہ میں لیکر حوالہ 5:1 عنایت اللہ  
تھانہ ٹورنگ کے گئے اور اُسے ہدایت دی کہ دونوں موبائل فون نمبرات کا متعلقہ  
حکام سے تفصیلی ڈیٹا حاصل کریں۔

عالمیہ! میرے دوست کے مطابق حملہ گارڈ جمعہ گارڈ کمانڈر نے اُس وقت تک  
چوکی سے باہر نکلے ہی نہیں جب مکمل خاموشی چھا گئی ہے۔ تو وہ گارڈ کرہ  
جات سے باہر نکلے۔ جو کہ سنگین سیر دی ہے۔ کانٹیل عمران جو کہ  
شہد کانٹیل کیساتھ ڈیوٹی سیر موجود تھا۔ وقوعہ کا چشم دید گواہ کے لیکن  
حال ابوجھ کر تشویش سے تعاد میں نہیں کرتا۔ اُسے وقوعہ کا مکمل علم ہے۔  
میری کہہ رہے کہ مطابق وقوعہ ایک ما دو ملازمان نے کیا ہے۔ اگر دہشت  
گرد تنظیم ہوتی تو میرے خیال میں گارڈ کرہ جات میں سونے ہوئے ملازمین  
کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ اگر کانٹیل عمران کو صحیح اسٹور گیت  
کنا جانے تو میرے خیال میں ملازم / ملازمان تک بڑی آسانی سے چھپا  
سکتے ہیں۔


مزید یہ بھی آپ صاحبان کو اس میں لانا چاہتا ہوں کہ گارڈ جسٹریک کیا گیا۔  
معلوم ہوا کہ جسٹریک (مورخہ 2012-7-20) سے تاحال گارڈ / ملازمین کو حملہ  
سیر و سیریز آفیسرز نے صرف دو مرتبہ چمک کئے ہیں۔ جسٹریک کے مطابق  
مورخہ 2013-6-01 کو لائن آفیسر اور مورخہ 9-13-7 کو SHO ٹورنگ  
نے چوکی گارڈ چمک کر کے ملازمین کو چوکی سوریل کو صندری ہدایات  
دئے ہیں۔ باقی کسی نے بھی چوکی کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں  
کی ہے۔ جو کہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔

سنتری پولس غیر محفوظ اور نوسدہ کا کافی دور سے بھی اس کو بڑی  
آسانی سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ رہائشی کرہ جات بھی غیر محفوظ ہیں۔  
اور خستہ حال ہیں۔ آئندہ کسی نقصان سے بچنے کی خاطر اس کی مناسب  
تعمیر / مرمت از حد ضروری ہے۔ جبکہ حالات کے پیش نظر سیریز  
کی تعداد کم ہے۔ مزید اگر یہ نکالی جاوے تو کارسہ کار کئے سہود  
مذہر بنگا۔

مزید یہ کہ جو کی سوریں میں کل آٹھ ٹکٹس پروں جنکٹ ٹرے تھے۔ ٹوٹ  
 وقوع شریوں نے کچھ قسم کا ٹکٹس پروں جنکٹ میں لینے تھے۔ اور  
 نہ ہی اس بابت گارڈ کمانڈر نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ گارڈ کمانڈر  
 بشمول دیگر گارڈ کانسٹیبلان نزدلی، لاہرواہی اور فرائض سے غفلت کی  
 بنا دسٹرکٹ کمانڈر کی استدعا کی تھی۔ 0:10 نے بھی اپنے فرائض  
 صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کیونکہ نہ اس نے  
 موبائل فون قدفہ میں لے لیے تھے۔ نہ ہی موقع کیسا کو نزدیک مصیبت  
 کے ملازمین سے اور جہاں سے عمران کانسٹیبل برآمد ہوا ہے۔ اس  
 مالک مکان سے بھی بیانات طلب کیے ہیں۔ گارڈ کانسٹیبلان  
 گارڈ کمانڈر کے بیانات مفروضہ اور اپنی نا اہلی کو چھانے  
 کیلئے مقدمہ کو غلط رخ دینا چاہتے ہیں۔


اصل مندرجہ نام کے منجھنے کیلئے کانسٹیبل عمران اور ڈسٹرکٹ انسپور  
 مقدر شاہ سکھ نامعلوم نمبر 0331-5664484 -  
 03005664484 د 0331-5664484 سے کوائٹڈ کیا جانا از حد ضروری  
 ہے۔ لہذا اس بابت ڈی پی او کمرہ اور SP الزسٹیشن کمرہ  
 کو مناسب ہدایات دی جاویں۔

رپورٹ مرتب ہو کر گزارش ہے

  
 RPEO

6.11.2013

Attested &

  
 12/11/2013

بیان ازان ٹیل گران فون نمبر 6577-6577-6577 حیدرآباد حویلی پور

CNIC نمبر 5-8388672-11201

سیدنا اوتے بیان نامہ ہر ادبی بیان سے جو قبل ازان میں تھا

فارغ نمبر 3051-52-11-11-013 لکھا گیا ہے۔ اس میں کئی قسم کی کمی

میں (ناجائزوں میں سے) سب سے درجہ ہے

محمد عمران خان

گران فون نمبر 6577

Attested

SDP/Naunang  
20-11-073



سای ایزان کی ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۰-۱۴۹۹۳۷۱-۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

۱۲۸۱ جونی سٹریٹ میں ایک کاپی ۱۲۸۱

XXX  
۵۵۷۷

۵۵۷۷


۵۵۷۷

Attest

۵۵۷۷

بیان دوران خدمت پھر خان صاحب کے تعلق سے


میں نے دریافت کیا کہ سب سے پہلے تو وہ 11/11/44 کو رول نمبر 11/11/44 کے تحت  
 فوری طور پر عین فوری جو کہ سوریل پنجاہ، پنجاب، جو کہ سوریل فقیہ  
 مدنی ہو کر جنگی ایئر سٹریٹ فورس میں ملا کر تعلق سے مقرر کیا گیا۔ جس پر بعد  
 میں 11/11/55 کو 5 دسمبر 302-324-353 کے تعلق سے فوری طور پر قائم ہو گیا۔  
 404-7ATA  
 جس حالت میں وہ فوجی کمانڈر کے طور پر اس پٹی پر مقرر کیا گیا۔  
 فوری فقیہ ایئر سٹریٹ فورس میں مقرر کیا گیا۔ 6577، ایئر سٹریٹ فورس میں مقرر کیا گیا۔  
 6493۔ 630 ایئر سٹریٹ فورس میں مقرر کیا گیا۔ فوری طور پر مقرر کیا گیا۔  
 ایئر سٹریٹ فورس میں مقرر کیا گیا۔ فوری طور پر مقرر کیا گیا۔  
 ایئر سٹریٹ فورس میں مقرر کیا گیا۔ فوری طور پر مقرر کیا گیا۔

  
 (Hof/Naurang)  
 20-11-53

X X X  
 ایئر سٹریٹ فورس میں  
 6577

ایئر سٹریٹ فورس میں مقرر کیا گیا۔  
 فوری طور پر مقرر کیا گیا۔

Attested

  
 (Hof/Naurang)  
 20-11-53

ایئر سٹریٹ فورس میں  
 11201-8388672-5

SP/PPA 20-5-013  
مقررین

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

SP/PPA 20-5-013

بیان اذین مراد علی خان ان کے سرکل آفیسر سر کٹھن ٹوٹنگ

بیان کیا۔ عدم توازن 140 ٹوٹنگ کے قریب دو ایس ایم 1592  
دم 353-324-302 کے تحت ٹوٹنگ دروازہ کے پاس ہے۔  
404/79711  
ہے۔ یہی سٹڈ میں کھینچتے ہیں کہ وہاں۔ اور ملتان ٹریڈنگ  
گٹن ہوں۔ کٹھن سٹڈ سوراخ سے نالو (ملاسن جڈ سٹڈ) کے  
عبر حارثہ و سیدین کوڈ سٹڈ 120 دکھائی دے گا جس میں کٹھن  
کو ٹاٹنگ سے تھپیر کر کے ران فرار اختیار کریں۔ جبکہ سٹڈوں کا ٹرک  
کٹھن عمران 6577، عبد القیوم 6532، رفیق اللہ 6483۔ عیب  
یہاں عمل 6508 (مرازم) ہے۔ کہ انہوں نے ملتان کو بڑے سے بڑا  
دفترہ کر کے عدالت اور کوٹا چکا ہے کہ یہاں سے۔ انہیں  
تفتیش جاری ہے۔ یہی سٹڈ بیان ہے۔

C/O. Naurang

20-11-2013

XXX نصاب (مرازم) علیہ

عمران 6577

مرازم علیہ کو جو قوم دیا گیا، گواہ اور جرم ہے۔  
جو جو میں خود کو اس کرنا نہیں جانتا ہے۔

عمران خان تعلیم فور

NIC: 11201-3388672-5

Attested

SD/ Naurang  
20/11/2013

بیان از میں کے لئے میرا خان نوی بھیج ۱۴۸ ۱۱۵۱-۱۹۹۹۳۷۱-۱

محکمہ انوائسری جونی سٹریٹ نمبر ۱۲۰ کے قیدی اللہ خان محم کنڈان  
میرا خان نوی ہے

۱۲۰ کے قیدی اللہ خان جو اس نمبر ۳۵۴ فورس ۱۳-۵-۲۰۱۳ کو جلا گیا ہے۔  
۱۴۸

نوی جونی سٹریٹ سے جونی سٹریٹ نمبر ۴۰۲ کے قیدی اللہ خان کو جلا گیا ہے۔

۱۳-۶-۲۰۱۳ کو جلا گیا ہے۔ ۱۴۸ کے قیدی اللہ خان کو جلا گیا ہے۔  
اور جونی سٹریٹ میں کیفیت رہا ہے۔

۲ نمبر عبدالقویم ۶۵۳۲ جو اس نمبر ۱۵۱ فورس ۱۳-۲-۱۹ کو جلا گیا ہے۔  
۱۴۸ سے جونی سٹریٹ نمبر ۱۴۸ کے قیدی اللہ خان کو جلا گیا ہے۔  
اور جونی سٹریٹ میں کیفیت رہا ہے۔

۳ نمبر عمران ۶۵۷۷ فورس ۱۳-۱۱-۲۰۱۳ کو جلا گیا ہے۔  
۱۴۸ سے جونی سٹریٹ نمبر ۱۴۸ کے قیدی اللہ خان کو جلا گیا ہے۔  
اور جونی سٹریٹ میں کیفیت رہا ہے۔

۴ نمبر رفیع اللہ ۶۴۵۷ فورس ۱۳-۹-۲۰۱۳ کو جلا گیا ہے۔  
۱۴۸ سے جونی سٹریٹ نمبر ۱۴۸ کے قیدی اللہ خان کو جلا گیا ہے۔  
اور جونی سٹریٹ میں کیفیت رہا ہے۔

۵ نمبر محمد اسماعیل ۶۵۵۸ فورس ۱۳۹ کے قیدی اللہ خان کو جلا گیا ہے۔  
۱۴۸ سے جونی سٹریٹ نمبر ۱۴۸ کے قیدی اللہ خان کو جلا گیا ہے۔  
اور جونی سٹریٹ میں کیفیت رہا ہے۔

XXX  
عمران ۶۵۷۷

میرا خان  
Attested  
۲۰۱۱/۱۳  
۲۰۱۱/۱۳

اللہ جی علی کو جلا گیا ہے۔  
جو جونی سٹریٹ میں رہا ہے۔


S.D.P./Nawang  
۲۰-۱۱-۲۰۱۳



عمران خان سکورڈر

بیان دوران خدمت محمد رفیق خان صاحب کھانا کورنگہ


فردی طور پر علی نقوی جو کہ سوریل پنجا۔ انکارہ جو کہ سوریل نقیب اللہ صاحب  
 مدنی جو کہ جیکو ایئر لائن صاحب کو پوسٹل ڈکٹیشن مینوریا۔ جس پر صدم 592  
 صدم 11/5 جم 302-324-353 کھانا کورنگہ قائم ہو چکا ہے۔  
 404-7ATA  
 جم حالت زور فحاشی کا جائزہ لینے پر اس نتیجہ پر پہنچا جس کے باجی نامہ  
 نقوی نقیب اللہ صاحب، بیل عمران 6577، رفیق اللہ 6493، عبداللہ صاحب 6532  
 حبیب اللہ 630 سب کے سب ہزدلی کے ہزدلی کے ڈسٹک ہوئے ہیں۔  
 انگریز نقوی ہزدلی کا نظام نہ کرتے۔ گوڑویم گاؤں منتقل ہو کر اور رہتا۔  
 یہی میرا بیان ہے۔ سن 1953 جو درج ہے۔

  
 (H. P. N. G.)  
 20-11-53

X X X  
 عمران 6577

وہی صاحب کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ان کے پاس  
 جو خوشی خود کر رہے ہیں کہ نہیں کہتا ہے

عمران خان تعلیم فور  
 11201-8388672-5

Attested  
  
 H. P. N. G.  
 20-11-53

5  
6

نمای ازین کیل کی 6689 دندہ (Des) لودنگ

لسانہ انتظامی چوبی سریل لودنگ سٹیشن (SIP) لیب اللہ خان 10/11/13

معرضہ چوبی لیب اللہ خان کیل کی 08 نمبر 354 مورخہ 20-5-13

چوکی سریل سے لودنگ سٹیشن لیب اللہ خان کیل کی 08 نمبر 402

معرضہ 05-06-13 مورخہ 06-06-13 کیل کی 08 نمبر 402

معرضہ 06-06-13 مورخہ 06-06-13 کیل کی 08 نمبر 402

سریل کیل عبدالقوام کیل کی 08 نمبر 151 مورخہ 19-02-13

سریل کیل عمران کیل کی 08 نمبر 31 مورخہ 01-01-13

سریل کیل ریحہ اللہ کیل کی 08 نمبر 6407 مورخہ 09-09-13

چوکی سریل لیب اللہ خان کیل کی 08 نمبر 402

Approved 22

سریل کیل ریحہ اللہ کیل کی 08 نمبر 6508 مورخہ 13-09-13

نے بولہ برقم انفریما سریل مورخہ 17-9-13 کو چوکی سریل لیب اللہ خان

سریل کیل ریحہ اللہ کیل کی 08 نمبر 402

لیب اللہ خان کیل کی 08 نمبر 402

Signature  
RIDSP/PRPT  
28/11/13

Signature  
29/11/2013

بیان ازدواجی حوالہ کے ساتھ سرکاری نوٹ

بیان کیا۔ ختم فرماؤں 50 نوٹ کے ختم ہونے پر 592 سے 630  
 رقم 353-324-302 کے تحت نوٹ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ  
 ہے۔ یہی نوٹ میں نکلیں گے۔ اور یہی نوٹ میں  
 مگن ہوں۔ کہ میں نے سوری سے نامعلوم مدتوں سے  
 عہدہ دار اور میڈیکل نوٹ 130 دیا گیا ہے۔ یہی نوٹ  
 کو نامزد سے تیار کر کے راجہ خدایا صاحب کے پاس  
 کراچی میں عمران 6577، عبدالقویوم 6532، رفیق اللہ 6493، حبیب اللہ 630  
 رہا ہے۔ 6508 (مراہم) ہے۔ کہ انہوں نے مدتوں کو گزرنے سے بزدلی کا  
 وصف یہ کہ عفت اور کوٹا پانچ کے حکم ہوئے ہیں۔ انہیں بارہ تک  
 تفتیش جاری ہے۔ یہی سہرا بیان ہے۔

*[Handwritten signature]*

C/O. Nawrang  
20-11-2013

× × ×  
عمران 6577

مراہم علیہ کو حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ درجہ رکھ  
 جو خوش خور کو اس کرنا نہیں چاہتا ہے

عمران خان صاحب  
NIC: 11201-3388672-5

Attested  
*[Signature]*  
20/11/2013



بیانی ازین کہ میرا خان بنوی یہی ۱۴۸۱ ۱۱۵۱-۱۴۹۹۳۷۱-۱

جسٹس ایڈووکیٹ جونی سٹریٹ ٹیڈیٹ بیام ۱۲۰۰ کے قیدی رہنے سے نکلتے ہوئے  
میرا خان بنوی

۱۲۰۰ کے قیدی رہنے سے نکلتے ہوئے ۳۵۴ فوراً ۲۰.۵.۱۳ ۲۰.۵.۱۳  
۱۴۸۱

جونی سٹریٹ سے جونی ٹیڈیٹ کے تبادلے کیلئے ۴۰۲

۲۰۱۳-۰۶-۰۶ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے اور  
۱۴۸۱

۲۰۱۳-۰۶-۰۶ سے جونی سٹریٹ میں کیفیت رہا ہے۔

۲۰۱۳-۰۲-۱۹ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

۲۰۱۳-۰۲-۱۹ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

اور سٹریٹ جونی سٹریٹ میں کیفیت رہا ہے

۲۰۱۳-۰۱-۳۱ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

۲۰۱۳-۰۱-۳۱ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

۲۰۱۳-۰۹-۰۹ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

۲۰۱۳-۰۹-۰۹ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

۲۰۱۳-۰۸-۰۸ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

۲۰۱۳-۰۸-۰۸ کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے کے تبادلے  
۱۴۸۱

کسی بھی میرا خان کے جو کیفیت بہ سنی اور انکوار کے دور ہے

XXX  
۲۰۱۳-۰۸-۰۸

Attest

۲۰۱۳-۱۱-۱۱

جو کوئی خوراک نہیں دیا گیا ہے

(D) P. Navang


۱۱-۵۱۳



میرا خان بنوی


بیان ازدان عبد شہزاد خان نورانی

خود برداشت بیان کیا کہ سب رسوم 11/5 کو دوں ہزار اصداع ملنے جا  
 خودی طور پر عیہ فقہی جو کہ سو روپے پہنچا۔ انکار جو کہ سو روپے فقہی اللہ سے  
 صدق ہو کر جو کہ سو روپے ضبط ہو رہا ہے اور جو کہ سو روپے ملے ہیں ان کا  
 معوضہ 11/5 رقم 353-324-302 کے نمبر پر لکھ کر نام ہو چکا ہے۔  
 رقم 404-7ATA  
 رقم 630 سے سب کے سب ہزار کے ہزار کے درجے میں پہنچا ہے۔ کہ باقی ماندہ  
 فقہی فقہی اللہ سے، بیل عمران 6577، ارضع اللہ 6493، عہد اللہ 6532،  
 عیب اللہ 630 سب کے سب ہزار کے ہزار کے درجے میں ہیں۔  
 اگر یہ فقہی ہزار کا نظام نہ کرتے تو دوں ہزار کا پس منظر کچھ اور ہوتا۔  
 یہی میرا بیان ہے۔ من لہ جو دراصل ہے۔

  
 Hafiz N. G.  
 20-11-13

X X X مکانہ ہزار  
 عمران 6577

اور عیہ کو دوں ہزار کا ہے تو ان کا  
 جو خودی طور پر عیہ فقہی کا ہے

Attested  
  
 Hafiz N. G.  
 20-11-13

عمران خان بھنگوڑ  
 11201-8388672-5

بنیاد اذان کی کمی 6638 / ERP ڈیڑھ (Dsp) ٹوٹک

بسطار انڈیا کی سرپل کی طرح باقی رہا ہے۔

معرض ہوتی ہے۔  
بنیاد کی کمی 20-5-013 / ERP

402 کی سرپل سے (جوئی) کے تبدیل کیا گیا۔

معرض 06-06-013 / ERP

بدستور معرض 06-06-013 سے

تذکرہ کیف ایبدا القوم 6532 / SPL ڈیڑھ 151 / ERP

بنیاد کیف ایبدا القوم 6577 / SPL معرض 31 / ERP

تذکرہ کیف ایبدا القوم 6407 / SPL ڈیڑھ 09 / ERP

جوئی سرپل تبدیل کیا گیا۔

Approved

تذکرہ کیف ایبدا القوم 6508 / SPL ڈیڑھ 139 / ERP

نے بدستور کم انفریما سرپل معرض 17 / ERP

OS / ERP کی کمی سے

کی کمی سے

Signature  
RIPSP/ERP  
28/11/013

Attested  
Signature  
28/11/013

بیان اذین حراہل کان ان کے سر پر افسر سر پر ٹوئنگ

بیان کیا۔ ختم قمر خان 50 ٹوئنگ کے خیر نام پر 592 سے 593  
 دم 353-324-302 کے ٹوئنگ درجہ اولیٰ کو سر پر بائیں دم تقسیم  
 404/7A7A ہے۔ یہی ٹوئنگ میں ٹکس تقسیم کر رہی ہیں۔ اور ملتان ٹرین گارڈ میں  
 ملان ہوں۔ کٹر ملان عدلیہ سواریل سے نامعلوم ملان ڈیڑھ سالہ کٹر ملان  
 علی جاڑ عدلیہ ملان ٹوئنگ 130 عدلیہ کٹر ملان ٹوئنگ 142  
 کو ٹوئنگ سے ٹیپر کر کے راجہ خیر احمد اختیار کیا۔ جبکہ کٹر ملان کٹر ملان ٹوئنگ  
 کٹر ملان ٹوئنگ 6577، عدلیہ القیوم 6532، رفیع اللہ 6493، حبیب اللہ 630  
 یہاں عمل 6508 (11/11) ہے۔ کہ انہوں نے ملان ٹوئنگ میں بزدل کا  
 وظیفہ رکے عدلیہ اور کوٹا پانچ کے ٹکس ہوئے ہیں۔ انہیں بارہ ٹکس  
 تقسیم ہو رہی ہے۔ یہی سہرا بیان ہے۔

*[Handwritten signature]*

C/O. Nawrang  
20-11-2013

X X X  
ملان ٹوئنگ  
6577

ادراخ علیہ کو ختم و بائیں کٹر ملان  
جو خوش خور کٹر ملان ٹوئنگ ہے

عمران خان  
NIC: 11201-3388672-5

Attested  
*[Signature]*  
C/O Nawrang  
20/11/2013

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

No 861 /ST

Dated 24 /04/2018

To

The Superintendent of Police, FRP,  
Government of Khyber Pakhtunkhwa,  
Bannu.

Subject: **ORDER/JUDGEMENT IN APPEAL NO. 497/2014, MR. IMRAN KHAN  
AND THREE OTHERS.**

I am directed to forward herewith a certified copy of Judgment/Order dated 16/04/2018 passed by this Tribunal on the above subject for strict compliance.

**Encl: As above**

*OK*

**REGISTRAR  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL  
PESHAWAR.**

To

The worthy Chief Secretary,  
Govt. of Khyber Pakhtunkhwa,  
Civil Secretariat, Peshawar.

Through: **Proper Channel**

Subject: DEPARTMENTAL REPRESENTATION AGAINST THE NOTIFICATION NO. SOE-V/E&AD/13/02/2018 DATED THE PESHAWAR.

May it please your good-self,

Being aggrieved of the Notification ibid, the appellant submits this departmental Representation on the following facts and grounds:-

1. That I am an employee of Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Peshawar. I initially joined the service on 03-08-1993 and at present is serving as Junior Clerk. I will hardly promote to Assistant in my coming 38 years of service, because of the benison bestowed by the said notification upon the Law Drafter, Assistant Registrar and Cashier cum Assistant

As a Organogram Shows Below.

